

Bose® SoundSport®

in-ear headphones

for use with select iPod, iPhone and iPad models

Owner's Guide | Brugervejledning | Bedienungsanleitung | Gebruikershandleiding

Guía del usuario | Käyttöohje | Notice d'utilisation | Manuale di istruzioni

Kezelési útmutató | Brukerveiledning | Podręcznik użytkownika | Bruksanvisning

คู่มือผู้ใช้ | 사용자 안내서 | 用户指南 | 使用者指南 | オーナーズガイド | دليل المالك

Important Safety Instructions

Please read this owner's guide carefully and keep for future reference.



WARNINGS:

- **DON'T** use the headphones at a high volume for any extended period.
 - To avoid hearing damage, use your headphones at a comfortable, moderate volume level.
 - Turn the volume down on your device before placing the headphones in your ears, then turn the volume up gradually until you reach a comfortable listening level.
- **DO** use caution and follow applicable laws regarding mobile phone and headphone use if using the headphones for phone calls while driving. Some jurisdictions impose specific limitations, such as single earpiece configuration, on the use of such products while driving.
- **DON'T** use the headphones for any other purpose while driving.
- **DO** focus on your safety and that of others if you use the headphones while engaging in any activity requiring your attention, e.g., while riding a bicycle or walking in or near traffic, a construction site or railroad, etc. Remove the headphones or adjust your volume to ensure you can hear surrounding sounds, including alarms and warning signals.
- **DON'T** use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in personal injury such as burns or property damage due to overheating.
- **DO** remove headphones and disconnect immediately if you experience a warming sensation or loss of audio.
- **DON'T** submerge or expose for extended period to water, or wear while participating in water sports, i.e. swimming, waterskiing, surfing, etc.
- **DON'T** place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.



WARNING:

Contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under age 3.



WARNING:

This product contains magnetic material. Contact your physician if you have questions on whether this might affect the operation of your implantable medical device.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.Bose.com/compliance

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Speakers	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364. O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

About your Bose® SoundSport® in-ear headphones	4
Carton contents	5
Connecting to your device	6
Using the headphones with your device.....	6
Headphone controls	6
Basic functions	7
Media playback functions	7
Importance of proper fit	8
Fitting the headphones to your ear	8
Changing the eartips	9
Attaching the extension cable	9
Adjusting for comfort and stability	10
Using the clothing clip	10
Using a single earpiece.....	10
Troubleshooting	11
Cleaning.....	12
Limited warranty	12

iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used with a license from Aiphone K.K.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Please complete and retain for your records:

The serial and model numbers can be found on the warranty card.

Serial number _____

Model number _____

Purchase date _____

We suggest you keep your receipt with this owner's guide.

Using the headphones

About your Bose® SoundSport® in-ear headphones


The Bose® SoundSport® in-ear headphones offer full, balanced sound that conventional sports earbuds can't match.

Features

- Exclusive TriPort® technology delivers natural-sounding lows, even at higher volumes.
- Sweat and weather-resistant.
- Proprietary StayHear® tips conform to your ears' shape, so they stay comfortably in place even during long, vigorous exercise.
- Lightweight, durable carrying case stores and protects headphones.
- Inline microphone and remote provide control for select iPod, iPhone and iPad models.
- Engineered and tested for lasting quality and durability.
- Available in different colors to fit your style.

Carton contents

Carefully unpack the carton and confirm that the following parts are included:



Note: The headphones come with medium (gray) StayHear® tips attached.

Using the headphones

Connecting to your device


Connect the headphones to the standard 3.5 mm headphone input on your iPod, iPhone or iPad.



Using the headphones with your device

The Bose® SoundSport® in-ear headphones come with an inline microphone and 3-button remote.

Headphone controls



Basic functions

Increase volume	Press and release the + button.
Decrease volume	Press and release the – button.
Answer a call	When you receive an incoming call, press and release the Answer/End button to answer.
End a call	Press and release the Answer/End button.
Decline an incoming call	Press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Switch to an incoming or on-hold call and put the current call on-hold	While on a call, press and release the Answer/End button once. Press and release again to switch back to the first call.
Switch to an incoming or on-hold call and end the current call	While on a call, press and hold the Answer/End button for about two seconds, then release.
Use Voice Control	Press and hold the Answer/End button. For more information on Voice Control, refer to your device's user's guide.

Media playback functions

Play or pause a song or video	Press and release the Answer/End button.
Skip forward	Press and release the Answer/End button twice quickly.
Fast forward	Press and release the Answer/End button twice quickly and hold the second press.
Skip backward	Press and release the Answer/End button three times quickly.
Rewind	Press and release the Answer/End button three times quickly and hold the third press.


Using the headphones

Importance of proper fit

For optimum audio performance, it is important to choose the correct size StayHear® tip. Select the size that gives you the best comfort and fit in each ear. You may need to try all three sizes to determine the best fit.

Note: To test the fit, try speaking aloud. Your voice should sound muffled in both ears. If not, select another tip size.


Each tip is marked with either an L or an R. Be sure to attach the left tip (L) to the left earpiece and the right tip (R) to the right earpiece.



To determine if the tip is the right size:

1. Insert the headphone into the ear so the tip gently rests in the opening of the ear canal.
2. Tilt the headphone back and press the tip wing under the ear ridge until it is secure.

The tips should fit comfortably yet securely in the bowl of the ear.



Changing the eartips

Select the type and size of eartip that provides you with the best comfort and fit.


1. Gently peel the edges of the attached tip away from the earpiece, using care not to tear the tip.

Caution: To prevent damage, do not pull on the StayHear® tip wing.

2. Position the opening of the new tip over the nozzle and the small slot over the nozzle hook.

Note: Each tip is marked with either an **L** or an **R** to indicate which earpiece it is for. Be sure to attach the left StayHear® tip to the left earpiece and the right StayHear® tip to the right earpiece.

3. Ease the base of the tip down around the base of the earpiece until the tip feels secured.



Attaching the extension cable

Attach the extension cable to create extra cable length between the headphones and your mobile device.

1. Connect the female end of the extension cable to the headphone cable.
2. Connect the other end of the extension cable to the standard 3.5 mm headphone input on your device.


Using the headphones

Adjusting for comfort and stability

There are several ways you can adjust your headphones to provide additional comfort and stability. You can customize how you wear your headphones using the adjustment slider and clothing clip.

Using the clothing clip

Use the clothing clip to fasten the cable to your clothing, for convenience, stability, and to help manage the cable. This can be helpful during high-movement activities or when using the headphones in a single earpiece configuration.



Using a single earpiece

The Bose® SoundSport® in-ear headphones can be used with only the right (**R**) earpiece in your ear. This allows you to take calls and still hear surrounding sounds.

Troubleshooting

If you experience any trouble using your headphones, try the following troubleshooting instructions.

Problem	What to do
No audio/intermittent audio	- Securely connect the headphones plug to the headphone input. - Try another audio device.
Excessive bass	Turn off any audio enhancement features on the audio source.
Microphone is not picking up sound	- Make sure you are using a compatible device. Refer to the list of compatible devices on the product carton. - Securely connect the headphones plug to the headphone input. - Make sure the microphone opening on the back of the Answer/End button is not blocked. - Try another phone call. - Try another compatible device.
Device is not responding to remote (button) presses	- Securely connect the headphones plug to the headphone input. - For multi-press functions: Vary speed of presses.
Device is not responding to remote	Full controls may not be available for some Apple products.
Eartips falling off	Securely attach the eartips to the earpiece and nozzle hook.
Lost eartip	Contact Bose® for replacement tips.
Sound is muffled from earpiece	- Clear any debris or wax build-up from the eartips and headphones nozzles. - Unplug the headphones from the audio source, then plug back in making sure they are securely connected. - Try another audio device.

Using the headphones

Cleaning

Your headphones may require periodic cleaning:

Eartips: Remove the eartips from the headphones. Wash them with a mild detergent and water. Make sure you thoroughly rinse and dry them before putting them back on the headphones.

Headphone nozzles: Clean only with a dry, soft cotton swab or equivalent. Never insert any cleaning tool into the nozzle.

Limited warranty

The Bose® SoundSport in-ear headphones are covered by a limited warranty. Details of the limited warranty are provided on the product registration card that is included in the carton. Please refer to the card for instructions on how to register. Failure to register will not affect your limited warranty rights.

The warranty information provided with this product does not apply in Australia and New Zealand. See our website at www.bose.com.au/warranty or www.bose.co.nz/warranty for details of the Australia and New Zealand warranty.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere.



ADVARSLER:

- Brug **IKKE** hovedtelefonerne ved høj lydstyrke gennem længere tid.
 - For at undgå høreskader skal du bruge hovedtelefonerne med et behageligt, moderat lydstyrkeniveau.
 - Skru ned for lyden på din enhed, inden du placerer hovedtelefonerne i dine ører, skru derefter gradvist op for lyden, indtil du når et behageligt lytteniveau.
- **VÆR** forsigtig i din brug, og følg lokal lovgivning vedrørende brug af mobiltelefoner og hovedtelefoner, mens du kører. I nogle jurisdiktioner gælder der særlige begrænsninger som f.eks. konfigurationer med ét ørestykke for brugen af sådanne produkter under kørslen.
- Brug **IKKE** hovedtelefonerne til noget andet formål, mens du kører bil.
- **FOKUSER** på din og andres sikkerhed, hvis du bruger hovedtelefonerne i en aktivitet udenfor, der kræver din opmærksomhed, f.eks. når du kører på cykel eller bevæger dig i nærheden af trafik, en byggeplads eller jernbanen osv. Fjern hovedtelefonerne, eller skru ned for lydstyrken for at sikre, at du kan høre omgivende lyde, inklusive alarmer og advarselssignaler.
- Brug **IKKE** mobiltelefonadaptere til at tilslutte hovedtelefoner til flysædestik, da dette kan medføre personskader som f.eks. forbrændinger eller tingsskader som følge af overophedning.
- **FJERN** hovedtelefonerne, og sluk dem med det samme, hvis du føler varme, eller hvis lyden forsvinder.
- Produktet må **IKKE** nedsænkes i vand eller udsættes for vand eller slid i længere tid, mens du deltager i vandsport som f.eks. svømning, vandski, surfing osv.
- Placer **IKKE** ikke nogen form for åben ild (f.eks. stearinlys) på eller tæt på produktet.



ADVARSEL:

Indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Egner sig ikke til børn under 3 år.



ADVARSEL:

Dette produkt indeholder magnetisk materiale. Kontakt din læge, hvis du er i tvivl om, hvorvidt dette kan påvirke din implanterbare medicinske enheds funktion.



Dette symbol betyder, at produktet ikke må smides ud som husholdningsaffald og bør indleveres til en passende indsamlingsordning med henblik på genanvendelse. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse bidrager til at beskyttelse naturressourcer, menneskets sundhed og miljøet. Hvis du ønsker flere oplysninger om bortskaffelse og genanvendelse af dette produkt, kan du kontakte din kommune, dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt dette produkt.



Dette produkt lever op til alle relevante krav i EU-direktiverne. Den fulde overensstemmelseserklæring kan findes på www.Bose.com/compliance

Navne på og indhold af giftige eller farlige stoffer eller elementer						
	Giftige eller farlige stoffer og elementer					
Delens navn	Bly (Pb)	Kviksølv (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybromeret biphenyl (PBB)	Polybromeret diphenylether (PBDE)
PCB'er	X	O	O	O	O	O
Metaldele	X	O	O	O	O	O
Plastikdele	O	O	O	O	O	O
Højttalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabel er oprettet i henhold til bestemmelserne i SJ/T 11364.						
O: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i alle de homogene materialer for denne del, er under grænsekravet i GB/T 26572.						
X: Angiver, at dette nævnte skadelige stof, som findes i mindst ét af de homogene materialer, der anvendes til denne del, er over grænsekravet i GB/T 26572.						

Om dine Bose® SoundSport® in-ear hovedtelefoner	4
Egenskaber	4
Pakkens indhold	5
Tilslutning til din enhed	6
Anvendelse af hovedtelefonerne sammen med din enhed	6
Hovedtelefonknapper	6
Grundlæggende funktioner	7
Medieafspilningsfunktioner	7
Vigtigheden af en god pasform	8
Ændring af øreindsatser	9
Isætning af forlænger kabel	9
Justering for at sikre komfort og stabilitet	10
Sådan bruges tøjclipsen	10
Anvendelse af en enkelt øreknop	10
Fejlfinding	11
Rengøring	12
Begrænset garanti	12

iPad, iPhone og iPod er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og i andre lande. Varemærket "iPhone" bruges sammen med en licens fra Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er designet specifikt til at tilsluttes henholdsvis iPod, iPhone og iPad og er certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds virkemåde eller for dens efterlevelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydelse.

Bedes udfyldt og opbevaret, så du har det til rådighed:

Serie- og modelnummeret kan findes på kortet med garantien.

Serienummer _____

Modelnummer _____

Købsdato _____

Vi anbefaler, at du opbevarer kvitteringen sammen med denne brugervejledning.

Anvendelse af hovedtelefonerne

Om dine Bose® SoundSport® in-ear hovedtelefoner


Bose® SoundSport® in-ear hovedtelefonerne giver en velafbalanceret lyd, som traditionelle sportshovedtelefoner ikke kan matche.

Egenskaber

- Eksklusiv TriPort®-teknologi giver lyde, der lyder naturligt, selv ved høje lydstyrker.
- Sved- og vejrbestandig.
- De patenterede StayHear® øreindsatser passer til formen på dit øre, så de sidder behageligt selv ved langvarig, energisk træning.
- Let, holdbar bæretaske opbevarer og beskytter hovedtelefonerne.
- Indbygget mikrofon og fjernbetjening, som kan bruges til udvalgte iPod-, iPhone- og iPad-modeller.
- Udviklet og testet for varig kvalitet og holdbarhed.
- Findes i flere farver, der passer til din stil.

Pakkens indhold

Pak omhyggeligt kassen ud, og kontrollér, at følgende dele er med:




Bemærk: Hovedtelefonerne leveres med StayHear®-øreindsatser i mellemstørrelse (grå) sat på.

Anvendelse af hovedtelefonerne

Tilslutning til din enhed


Tilslut hovedtelefonerne til 3,5 mm standardhovedtelefonstikket på din iPod, iPhone eller iPad.



Anvendelse af hovedtelefonerne sammen med din enhed

Bose® SoundSport® in-ear hovedtelefonerne leveres med en lille indbygget mikrofon og en fjernbetjening med 3 knapper.

Hovedtelefonknapper



Grundlæggende funktioner

Øg lydstyrken	Tryk på knappen +.
Reducer lydstyrken	Tryk på knappen –.
Besvar et opkald	Når du modtager et indgående opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut-knappen for at svare.
Afslut et opkald	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Afvis et indgående opkald	Tryk på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder, og slip den derefter.
Skift til et indgående eller parkeret opkald, og sæt det aktuelle opkald på hold	Når du er i gang med et opkald, skal du trykke på og slippe svar/afslut-knappen én gang. Tryk og slip igen for at skifte tilbage til det første opkald.
Skift til et indgående eller parkeret opkald, og afslut det aktuelle opkald	Mens du er i gang med et opkald, skal du trykke på svar/afslut-knappen i ca. to sekunder og derefter slippe den.
Anvendelse af stemmestyring	Tryk på svar/afslut-knappen, og hold den nede. Se brugervejledningen til din enhed for at få flere oplysninger om stemmestyring.

Medieafspilningsfunktioner

Afspilning og midlertidig afbrydelse af en sang eller en video	Tryk på og slip svar/afslut-knappen.
Gå frem	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange.
Spol frem	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt to gange, og hold det andet tryk.
Gå tilbage	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange.
Spol tilbage	Tryk på og slip svar/afslut-knappen hurtigt tre gange, og hold det tredje tryk.

Anvendelse af hovedtelefonerne

Vigtigheden af en god pasform

For at få en optimal lydoplevelse er det vigtigt at vælge den korrekte størrelse på StayHear® øreindsatsen. Vælg den størrelse, der giver dig den bedste komfort og pasform i hvert øre. Du skal eventuelt prøve alle tre størrelser for at finde den, der passer bedst.

Bemærk: Du kan teste pasformen ved at prøve at tale. Din stemme skal lyde dæmpet i begge ører. Ellers skal du vælge en anden indsatsstørrelse.


Hver indsats er mærket med enten L eller R. Sørg for at sætte den venstre indsats (L) på det venstre ørestykke og den højre indsats (R) på det højre ørestykke.



Sådan afgør du, om øreindsatsen har den rigtige størrelse:

1. Sæt hovedtelefonerne ind i øret, så indsatsen hviler forsigtigt i øregangens åbning.
2. Vip hovedtelefonerne tilbage, og tryk på øreindsatsen under øreryggen, indtil det er sikkert.

Øreindsatserne skal sidde bekvemt, men fast i ørehulen.



Ændring af øreindsatser

Vælg en øreindsats med den type og størrelse, som giver dig den bedste komfort og pasform.


1. Træk forsigtigt kanterne af den fastgjorte øreindsats væk fra ørestykket. Pas på ikke at ødelægge øreindsatsen.

Forsigtig: Undgå at trække i StayHear®-øreindsatsen for at undgå skader.

2. Anbring den nye øreindsats åbning over stykket og den lille sprække over krogen.

Bemærk: Hver øreindsats er mærket med et **L** eller et **R** for at angive, hvilket ørestykke den passer til. Sørg for at sætte den venstre StayHear®-øreindsats på det venstre ørestykke og den højre StayHear®-øreindsats på det højre ørestykke.

3. Træk forsigtigt øreindsatsens base ned omkring ørestykkets base, indtil øreindsatsen føles fastgjort.



Isætning af forlængerkabel

Isæt forlængerkablet for at skabe ekstra kabellængde mellem hovedtelefonerne og din mobile enhed.

1. Slut forlængerkablets hunstik til hovedtelefonkablet.
2. Slut den anden ende af forlængerkablet til 3,5 mm standardhovedtelefonindgangen på din enhed.


Anvendelse af hovedtelefonerne

Justering for at sikre komfort og stabilitet

Du kan justere hovedtelefonerne på flere forskellige måder for at opnå yderligere komfort og stabilitet. Du kan tilpasse den måde, du bærer hovedtelefonerne på, ved hjælp af justeringsskyderen og tøjclipsen.

Sådan bruges tøjclipsen

Brug tøjclipsen til at fastgøre kablet til tøjet for at opnå komfort og stabilitet og for bedre at kunne håndtere kablet. Dette kan være nyttigt under aktiviteter med megen bevægelse eller når du bruger hovedtelefonerne i en konfiguration med en enkelt øreknop.



Anvendelse af en enkelt øreknop

Bose® SoundSport® in-ear hovedtelefoner kan kun bruges med den højre (R) øreknop i øret. På den måde kan du besvare opkald og stadig høre lyde fra omgivelserne.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med at benytte dine hovedtelefoner, så kig på følgende vejledninger.

Problem	Gør følgende
Ingen lyd/uregelmæssig lyd	• Sæt hovedtelefonernes stik godt fast i hovedtelefonindgangen. • Prøv en anden lydenhed.
For kraftig bas	• Deaktiver eventuelle lydforbedringsfunktioner på lydkilden.
Mikrofonen registrerer ikke lyden	• Sørg for, at du bruger en kompatibel enhed. Se listen med kompatible enheder på produktemballagen. • Sæt hovedtelefonernes stik godt fast i hovedtelefonindgangen. • Sørg for, at mikrofonåbningen på bagsiden af svar/afslut-knappen ikke er blokeret. • Prøv et andet telefonopkald. • Prøv en anden kompatibel enhed.
Enhed reagerer ikke på tryk på fjernbetjening (knap)	• Sæt hovedtelefonernes stik godt fast i hovedtelefonindgangen. • For multi-trykfunktioner: Varier trykkenes hastighed.
Enhed reagerer ikke på fjernbetjeningen	• Alle knapper vil muligvis ikke være tilgængelige for visse Apple-produkter.
Øreindsatser falder af	• Sæt øreindsatserne godt fast i ørestykket og mundstykket.
Mistet øreindsats	• Kontakt Bose® for råd om reservedele.
Lyden fra øreknoppen er dæmpet	• Sørg for, at der ikke er snavs eller voks på øreindsatserne og hovedtelefonernes mundstykker. • Fjern hovedtelefonerne fra lydkilden, og tilslut dem derefter igen for at sikre, at de er tilsluttet solidt. • Prøv en anden lydenhed.

Anvendelse af hovedtelefonerne

Rengøring

Dine hovedtelefoner kræver eventuelt rengøring af og til:

Øreindsatser: Fjern øreindsatserne fra hovedtelefonerne. Vask dem med et mildt rengøringsmiddel og vand. Sørg for at skylle og tørre dem grundigt, før du sætter dem tilbage på hovedtelefonerne.

Hovedtelefonernes mundstykker: Må kun rengøres med en tør, blød vatpind eller tilsvarende. Sæt aldrig et rengøringsredskab ind i mundstykket.

Begrænset garanti

Bose® SoundSport in-ear hovedtelefoner er omfattet af en begrænset garanti. Detaljerede oplysninger om den begrænsede garanti findes på produktregistreringskortet, som ligger i æsken. Oplysninger om, hvordan du registrerer, finder du på kortet. Hvis du undlader at registrere produktet, har det ingen betydning for den begrænsede garanti.

Garantioplysningerne til dette produkt gælder ikke for Australien og New Zealand. Se vores websted på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for at få flere oplysninger om garantien i Australien og New Zealand.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.



WARNUNG:

- Verwenden Sie die Kopfhörer **NICHT** längere Zeit bei hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhörer bei angenehmer, mittlerer Lautstärke verwenden.
 - Schalten Sie die Lautstärke an Ihrem Gerät leiser, bevor Sie die Kopfhörer aufsetzen, und erhöhen Sie die Lautstärke dann nach und nach, bis ein angenehmes Niveau erreicht ist.
- **Seien Sie vorsichtig** und befolgen Sie die örtlichen Gesetze bezüglich der Verwendung von Mobiltelefonen und Kopfhörern, wenn Sie die Kopfhörer für Telefongespräche beim Autofahren verwenden. In einigen Ländern gelten bestimmte Einschränkungen, zum Beispiel die Verwendung von einem einzigen Ohrstück während des Fahrens.
- Verwenden Sie die Kopfhörer beim Autofahren **NICHT** für einen anderen Zweck.
- **Konzentrieren Sie sich** auf Ihre Sicherheit und die anderer, wenn Sie Kopfhörer verwenden und gleichzeitig eine Tätigkeit durchführen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren oder Gehen in der Nähe von Verkehr, einer Baustelle oder Straße usw. Nehmen Sie die Kopfhörer ab oder passen Sie die Lautstärke an, um sicherzustellen, dass Sie Umgebungsgeräusche hören können, z. B. Alarmer und Warnsignale.
- Verwenden Sie Handyadapter **NICHT** zum Anschließen von Kopfhörern an Flugzeugsitzbuchsen, da dies zu Verletzungen, z. B. Verbrennungen, oder zu Sachschäden aufgrund von Überhitzung führen kann.
- **Nehmen Sie die Kopfhörer ab** und trennen Sie sie sofort, wenn Sie Wärme spüren oder nichts mehr hören.
- Tauchen Sie die Kopfhörer **NICHT** in Wasser und setzen Sie sie nicht längere Zeit dem Wasser aus und tragen Sie sie nicht bei Wassersportarten, z. B. Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Stellen Sie **KEINE** offenen Flammen wie brennende Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.



WARNUNG:

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.



WARNUNG:

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.



Dieses Produkt entspricht allen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
Diese Tabelle wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt. O: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt. X: Gibt an, dass dieser besagte gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß GB/T 26572 liegt.						

Über die Bose® SoundSport® In-Ear-Kopfhörer	4
Merkmale	4
Kartoninhalt	5
Anschließen an Ihr Gerät	6
Verwendung der Kopfhörer mit Ihrem Gerät	6
Kopfhörer-Bedienelemente.....	6
Basisfunktionen.....	7
Medienwiedergabefunktionen.....	7
Wichtig für den richtigen Sitz	8
Austauschen der Polsterkappen	9
So schließen Sie das Verlängerungskabel an.....	9
Anpassung für mehr Bequemlichkeit und Stabilität.....	10
Verwendung des Clips	10
Verwendung eines einzelnen Ohrhörers.....	10
Fehlerbehebung.....	11
Reinigung.....	12
Eingeschränkte Garantie.....	12

iPad, iPhone und iPod sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. Die Marke „iPhone“ wird mit einer Lizenz von Aiphone K.K. verwendet.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf:

Die Serien- und Modellnummer finden Sie auf der Garantiekarte.

Seriennummer _____

Modellnummer _____

Kaufdatum _____

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

Verwendung der Kopfhörer

Über die Bose® SoundSport® In-Ear-Kopfhörer


Die Bose® SoundSport® In-Ear-Kopfhörer bieten vollen, ausgewogenen Klang, den herkömmliche Sportohrhörer nicht erreichen können.

Merkmale

- Exklusive TriPort®-Technologie bietet natürlich klingende Tiefen, auch bei höherer Lautstärke.
- Schweiß- und wetterbeständig.
- Die US-patentierten StayHear®-Polsterkappen passen sich der Anatomie Ihrer Ohren optimal an und gewährleisten besten Tragekomfort und höchste Tragesicherheit selbst in sportlich anspruchsvollen Situationen.
- Leichte, haltbare Tragetasche zur Aufbewahrung und zum Schutz der Kopfhörer.
- Inline-Mikrofon und -Fernbedienung für die Steuerung ausgewählter iPod-, iPhone- und iPad-Modelle.
- Entwickelt und getestet für langlebige Qualität und Haltbarkeit.
- Erhältlich in mehreren Farben, passend zu Ihrem Stil.

Kartoninhalt

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob die folgenden Teile enthalten sind:



Hinweis: Die Kopfhörer werden mit angebrachten mittleren (grauen) StayHear®-Polsterkappen geliefert.

Verwendung der Kopfhörer

Anschließen an Ihr Gerät


Schließen Sie die Kopfhörer an den üblichen 3,5-mm-Kopfhöreingang an Ihrem iPod, iPhone oder iPad an.



Verwendung der Kopfhörer mit Ihrem Gerät

Die Bose® SoundSport® In-Ear-Kopfhörer werden mit einer Fernbedienung mit integriertem Mikrofon und 3 Tasten geliefert.

Kopfhörer-Bedienelemente



Basisfunktionen

Lautstärke erhöhen	Drücken Sie kurz die Taste +.
Lautstärke verringern	Drücken Sie kurz die Taste -.
Anruf entgegennehmen	Wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, drücken Sie die Answer/End-Taste und lassen Sie sie wieder los, um den Anruf entgegenzunehmen.
Anruf beenden	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.
Ankommenden Anruf ablehnen	Halten Sie die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf auf Warten stellen	Drücken Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste kurz. Drücken Sie die Taste erneut, um wieder zum ersten Anruf umzuschalten.
Zu einem ankommenden oder gehaltenen Anruf umschalten und den aktuellen Anruf beenden	Halten Sie während eines Anrufs die Answer/End-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt.
Sprachsteuerung verwenden	Halten Sie die Answer/End-Taste gedrückt. Weitere Informationen zur Sprachsteuerung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

Medienwiedergabefunktionen

Einen Song oder ein Video abspielen oder anhalten	Halten Sie die Answer/End-Taste kurz gedrückt.
Vorwärts springen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal.
Schneller Vorlauf	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz zweimal und halten Sie sie beim zweiten Mal gedrückt.
Rückwärts springen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal.
Zurückspulen	Drücken Sie die Answer/End-Taste kurz dreimal und halten Sie sie beim dritten Mal gedrückt.

Verwendung der Kopfhörer

Wichtig für den richtigen Sitz

Für optimale Audiowiedergabe ist es wichtig, StayHear®-Polsterkappen in der richtige Größe auszuwählen. Wählen Sie die Größe die am besten und bequemsten in das Ohr passt. Sie müssen möglicherweise alle drei Größen probieren, um die Beste herauszufinden.

Hinweis: Um die Passform zu prüfen, versuchen Sie, laut zu sprechen. Ihre Stimme sollten in beiden Ohren gedämpft zu hören sein. Falls nicht, wählen Sie eine andere Polsterkappengröße.


Jede Polsterkappe ist entweder mit einem L oder einem R markiert. Achten Sie darauf, die linke Polsterkappe (L) am linken Ohrstück und die rechte Polsterkappe (R) am rechten Ohrstück anzubringen.



So stellen Sie fest, ob die Polsterkappe die richtige Größe hat:

1. Stecken Sie den Kopfhörer so in das Ohr, dass die Polsterkappe leicht auf der Öffnung des Gehörgangs sitzt.
2. Kippen Sie den Kopfhörer nach hinten und drücken Sie auf den Flügel der Polsterkappe unter dem Ohr, bis sie fest sitzt.

Die Polsterkappen sollten bequem und doch fest in der Ohrmuschel sitzen.



Austauschen der Polsterkappen

Wählen Sie die Art und Größe der Polsterkappe so, dass sie bequem und optimal sitzt.


1. Ziehen Sie die Kanten der befestigten Polsterkappe vorsichtig vom Ohrstück weg und achten Sie dabei darauf, die Polsterkappe nicht zu zerreißen.

Achtung: Um Schäden zu verhindern, sollten Sie nicht an der StayHear®-Polsterkappe ziehen.

2. Positionieren Sie die Öffnung der neuen Polsterkappe über dem Kopfhörer und dem kleinen Schlitz über dem Kopfhörerhaken.

Hinweis: Jede Polsterkappe ist mit einem L oder einem R markiert, um anzugeben, für welches Ohrstück sie ist. Bringen Sie die linke StayHear®-Polsterkappe am linken Ohrstück und die rechte StayHear®-Polsterkappe am rechten Ohrstück an.

3. Lockern Sie die Basis der Polsterkappe unten um die Basis des Ohrstücks, bis die Polsterkappe fest sitzt.



So schließen Sie das Verlängerungskabel an

Schließen Sie das Verlängerungskabel für zusätzliche Kabellänge zwischen den Kopfhörern und Ihrem mobilen Gerät an.

1. Schließen Sie die Buchse des Verlängerungskabels an das Kopfhörerkabel an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Verlängerungskabels an den üblichen 3,5-mm-Kopfhörereingang an Ihrem Gerät an.


Verwendung der Kopfhörer

Anpassung für mehr Bequemlichkeit und Stabilität

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Kopfhörer so anzupassen, dass sie mehr Bequemlichkeit und Stabilität bieten. Mithilfe des Schiebers und des Clips können Sie einstellen, wie Sie die Kopfhörer tragen möchten.

Verwendung des Clips

Verwenden Sie den Clip, um das Kabel an Ihrer Kleidung zu befestigen. Dies kann bei Aktivitäten mit viel Bewegung helfen, oder wenn Sie die Kopfhörer mit einem einzigen Ohrhörer verwenden.



Verwendung eines einzelnen Ohrhörers

Es ist möglich, die Bose® SoundSport® In-Ear Kopfhörer nur mit dem rechten (R) Ohrstück im Ohr zu verwenden. So können Sie Anrufe entgegennehmen und trotzdem die Umgebungsgeräusche hören.

Fehlerbehebung

Probieren Sie die folgenden Lösungsvorschläge aus, wenn bei der Verwendung der Kopfhörer Probleme auftreten.

Problem	Lösung
Kein Ton/unterbrochener Ton	• Schließen Sie den Kopfhörerstecker fest an den Kopfhörereingang an. • Versuchen Sie ein anderes Gerät.
Zuviel Bass	• Schalten Sie alle Klangverbesserungsfunktionen der Audioquelle aus.
Das Mikrofon nimmt keinen Ton an	• Vergewissern Sie sich, dass Sie ein kompatibles Gerät verwenden. Eine Liste der kompatiblen Geräte finden Sie auf dem Produktkarton. • Schließen Sie den Kopfhörerstecker fest an den Kopfhörereingang an. • Vergewissern Sie sich, dass die Mikrofonöffnung an der Rückseite der Answer/End-Taste nicht blockiert ist. • Versuchen Sie einen anderen Telefonanruf. • Versuchen Sie ein anderes kompatibles Gerät.
Gerät reagiert nicht auf Drücken der Fernbedienungstasten	• Schließen Sie den Kopfhörerstecker fest an den Kopfhörereingang an. • Für Funktionen mit mehrmaligem Tastendruck: Variieren Sie die Geschwindigkeit.
Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung	• Möglicherweise stehen für einige Apple-Produkte nicht alle Bedienelemente zur Verfügung.
Polsterkappen fallen ab	• Befestigen Sie die Polsterkappen fest am Ohrstück und an den Kopfhörerhaken.
Polsterkappe verloren	• Wenden Sie sich an Bose®, um Polsterkappen zum Austauschen zu erhalten.
Ton wird durch den Ohrhörer gedämpft	• Entfernen Sie eventuelle Fremdkörper oder Ohrschmalz von den Polsterkappen und Kopfhörern-Ohrhörer. • Trennen Sie die Kopfhörer von der Tonquelle und schließen Sie sie wieder an. Achten Sie dabei darauf, dass sie korrekt angeschlossen sind. • Versuchen Sie ein anderes Gerät.

Verwendung der Kopfhörer

Reinigung

Von Zeit zu Zeit sollten Sie die Ohrhörer reinigen:

Polsterkappen: Entfernen Sie die Polsterkappen von den Kopfhörern. Waschen Sie sie mit Feinwaschmittel und Wasser. Spülen Sie die Polsterkappen gründlich aus und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder auf die Kopfhörer setzen.

Kopfhörer: Reinigen Sie sie nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder etwas Ähnlichem. Führen Sie keine spitzen Gegenstände und keine Reinigungsmittel in die Ohrhörer ein.

Eingeschränkte Garantie

Für die Bose® SoundSport In-Ear-Kopfhörer gilt eine eingeschränkte Garantie. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie mit dem System erhalten haben. Wie Sie sich registrieren, ist auf der Karte beschrieben. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig von der Registrierung gültig.

Die mit diesem Produkt angegebenen Garantieinformationen gelten nicht in Australien und Neuseeland. Nähere Informationen zu unserer Garantie in Australien und Neuseeland finden Sie auf unserer Website unter www.bose.com.au/warranty bzw. www.bose.co.nz/warranty.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.



WAARSCHUWINGEN:

- Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** gedurende lange tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de hoofdtelefoon op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de hoofdtelefoon in uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- **Wees** voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons in acht als u de hoofdtelefoon gebruikt om te bellen terwijl u rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk.
- Gebruik de hoofdtelefoon **NIET** voor andere doeleinden terwijl u rijdt.
- Concentreer u op uw veiligheid en die van anderen als u de hoofdtelefoon gebruikt tijdens activiteiten die uw aandacht vereisen, zoals fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg enz. Zet de hoofdtelefoon af of pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden, waaronder alarm- en waarschuwingssignalen, kunt horen.
- Gebruik adapters van mobiele telefoons **NIET** om een hoofdtelefoon aan te sluiten op aansluitingen in vliegtuigstoelen, aangezien dit kan leiden tot persoonlijk letsel, zoals brandwonden of schade aan eigendommen door oververhitting.
- **Zet** de hoofdtelefoon onmiddellijk af en koppel deze los als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.
- **NIET** langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Plaats **GEEN** open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.



WAARSCHUWING:

Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



WAARSCHUWING:

Dit product bevat magnetisch materiaal. Neem contact op met uw arts als u vragen hebt over de invloed die dit kan hebben op de werking van uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsdienst, of de winkel waar u dit product hebt gekocht.



Dit product voldoet aan alle vereisten van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Luidsprekers	X	O	O	O	O	O
Kabels	X	O	O	O	O	O
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan de genoemde gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de genoemde gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

©2015 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Over uw Bose® SoundSport® in-ear hoofdtelefoon	4
Eigenschappen	4
Inhoud van de doos	5
Op uw apparaat aansluiten	6
Gebruik van de hoofdtelefoon met uw apparaat	6
Knoppen op de hoofdtelefoon	6
Basisfuncties	7
Functies voor het afspelen van media	7
Een goede pasvorm is belangrijk	8
Oordopjes verwisselen	9
Het verlengsnoer aansluiten	9
Aanpassen voor comfort en stabiliteit	10
Gebruik van de kledingclip	10
Eén oorstuk gebruiken	10
Problemen oplossen	11
Schoonmaken	12
Beperkte garantie	12

iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.
Het handelsmerk "iPhone" wordt gebruikt onder licentie van Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen voor aansluiting op respectievelijk een iPod, iPhone of iPad en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het gebruik van dit product of voor het voldoen aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Gebruik van dit accessoire met iPod, iPhone of iPad kan de werking van draadloze apparaten negatief beïnvloeden.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie:

Het serienummer en modelnummer vindt u op de garantietafel.

Serienummer _____

Modelnummer _____

Aankoopdatum _____

Wij adviseren om het aankoopbewijs bij deze gebruikershandleiding te bewaren.

Over uw Bose® SoundSport® in-ear hoofdtelefoon


De Bose® SoundSport® in-ear hoofdtelefoon biedt een vol, evenwichtig geluid dat conventionele sportoordopjes niet kunnen evenaren.

Eigenschappen

- De exclusieve TriPort®-technologie zorgt voor natuurlijk klinkende lage tonen, zelfs bij een hoog volume.
- Zweet- en weerbestendig.
- De zelf ontwikkelde StayHear®-dorpjes passen zich aan de vorm van uw oren aan, zodat ze zelfs bij lange, inspannende lichaamsbeweging comfortabel op hun plaats blijven.
- Het lichtgewicht, duurzame etui beschermt de hoofdtelefoon als u deze daarin opbergt.
- De inline microfoon en afstandsbediening bieden bediening van geselecteerde modellen iPod, iPhone en iPad.
- Ontworpen en getest voor blijvende kwaliteit en duurzaamheid.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren om bij uw stijl te passen.

Inhoud van de doos

Pak de doos voorzichtig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Opmerking: De hoofdtelefoon wordt geleverd met medium (grijze) StayHear®-dopjes aangebracht.

Gebruik van de hoofdtelefoon

Op uw apparaat aansluiten


Sluit de hoofdtelefoon aan op de standaardhoofdtelefooningang van 3,5 mm op uw iPod, iPhone of iPad.



Gebruik van de hoofdtelefoon met uw apparaat

De Bose® SoundSport® in-ear hoofdtelefoon wordt geleverd met een inline microfoon en een afstandsbediening met 3 knoppen.

Knoppen op de hoofdtelefoon



Basisfuncties

Volume hoger	Druk kort op de knop +.
Volume lager	Druk kort op de knop –.
Een oproep beantwoorden	Als u een inkomende oproep ontvangt, druk dan kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen om de oproep te beantwoorden.
Een oproep beëindigen	Druk kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen.
Een inkomende oproep weigeren	Houd de knop Beantwoorden/Beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los.
Naar een inkomende oproep of een oproep in de wacht schakelen en de huidige oproep in de wacht plaatsen	Tijdens een oproep drukt u eenmaal kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen. Druk nogmaals kort op de knop om terug te schakelen naar de eerste oproep.
Naar een inkomende oproep of een oproep in de wacht schakelen en de huidige oproep beëindigen	Tijdens een oproep houdt u de knop Beantwoorden/Beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt en laat u deze vervolgens los.
Spraakbediening gebruiken	Houd de knop Beantwoorden/Beëindigen ingedrukt. Voor meer informatie over spraakbediening raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw apparaat.

Functies voor het afspelen van media

Een song of video afspelen of pauzeren	Druk kort op de knop Beantwoorden/Beëindigen.
Vooruit skippen	Druk tweemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/Beëindigen.
Snel vooruitspoelen	Druk tweemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/Beëindigen en houd de knop de tweede keer ingedrukt.
Achteruit skippen	Druk driemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/Beëindigen.
Terugspoelen	Druk driemaal snel achter elkaar op de knop Beantwoorden/Beëindigen en houd de knop de derde keer ingedrukt.

Gebruik van de hoofdtelefoon

Een goede pasvorm is belangrijk

Voor optimale audioprestaties is het belangrijk de juiste maat StayHear®-dopje te kiezen. Selecteer de maat die het meest comfortabel in elk oor past. Het kan nodig zijn alle drie de maten te proberen om te bepalen welke het best past.

Opmerking: Om te testen of de dopjes passen, spreekt u hardop. Uw stem hoort in beide oren gedempt te klinken. Als dat niet zo is, selecteer dan een andere maat.


Elk dopje is gemarkeerd met een L of een R. Zorg dat u het linkerdopje (L) aan het linkeroorstuk bevestigt en het rechterdopje (R) aan het rechteroorstuk.



Bepalen of het dopje de juiste maat is:

1. Plaats de hoofdtelefoon zo in uw oor dat het dopje zachtjes tegen de opening van de gehoorgang rust.
2. Kantel de hoofdtelefoon naar achteren en druk de vleugel van het dopje onder de oorplooi totdat het goed vastzit.

De dopjes moeten comfortabel maar toch stevig in de oorschelp passen.



Oordopjes verwisselen

Selecteer het type en de maat oordopje dat u het beste past en dat het prettigste zit.


1. Verwijder voorzichtig de randen van het bevestigde dopje van het oorstuk. Wees voorzichtig dat u het dopje niet scheurt.

LET OP: Om beschadiging te voorkomen, mag u niet aan de vleugel van het StayHear®-dopje trekken.

2. Plaats de opening van het nieuwe dopje over het oorstuk en de kleine gleuf over het haakje van het oorstuk.

Opmerking: Op elk dopje staat een **L** of een **R** om aan te geven voor welk oorstuk het is bedoeld. Let erop dat u het linker StayHear®-dopje aan het linkeroorstuk bevestigt en het rechter StayHear®-dopje aan het rechteroorstuk.

3. Druk de onderkant van het dopje voorzichtig rond de onderkant van het oorstuk totdat u voelt dat het dopje vastzit.



Het verlengsnoer aansluiten

Sluit het verlengsnoer aan om te zorgen voor extra snoerlengte tussen de hoofdtelefoon en uw mobiele apparaat.

1. Sluit het vrolijke uiteinde van het verlengsnoer aan op het snoer van de hoofdtelefoon.
2. Sluit het andere uiteinde van het verlengsnoer aan op de standaardhoofdtelefooningang van 3,5 mm op uw apparaat.


Gebruik van de hoofdtelefoon

Aanpassen voor comfort en stabiliteit

Er zijn verschillende manieren waarop u de hoofdtelefoon kunt aanpassen zodat deze prettiger zit en beter op zijn plaats blijft. Met het snoerschuifje en de kledingclip kunt u aanpassen hoe u de hoofdtelefoon draagt.

Gebruik van de kledingclip

Met de kledingclip kunt u het snoer voor het gemak aan uw kleding bevestigen zodat dit goed vastzit en u geen last hebt van een loshangend snoer. Dit kan handig zijn bij activiteiten waarbij u veel beweegt of als u de hoofdtelefoon gebruikt met één oorstuk.



Eén oorstuk gebruiken

De Bose® SoundSport® in-ear hoofdtelefoon kan worden gebruikt met alleen het rechteroordopje (**R**) in uw oor. Op deze manier kunt u telefoneren en toch omgevingsgeluiden horen.

Problemen oplossen

Als u problemen hebt met het gebruik van de hoofdtelefoon, probeer dan het probleem te verhelpen aan de hand van de volgende instructies.

Probleem	Wat te doen
Geen geluid/geluid valt soms weg	• Sluit de stekker van de hoofdtelefoon stevig aan op de hoofdtelefooningang. • Probeer een ander audioapparaat.
Te veel lage tonen	• Schakel alle functies voor het verbeteren van het geluid op de audiobron uit.
De microfoon registreert geen geluid	• Controleer of u een compatibel apparaat gebruikt. Raadpleeg de lijst met compatibele apparaten op de doos van het product. • Sluit de stekker van de hoofdtelefoon stevig aan op de hoofdtelefooningang. • Controleer of de opening van de microfoon aan de achterkant van de knop Beantwoorden/Beëindigen niet geblokkeerd is. • Probeer het met een ander telefoongesprek. • Probeer een ander compatibel apparaat.
Het apparaat reageert niet wanneer u op de afstandsbediening (knop) drukt	• Sluit de stekker van de hoofdtelefoon stevig aan op de hoofdtelefooningang. • Voor functies met meerdere keren drukken: varieer de snelheid waarmee u drukt.
Het apparaat reageert niet op de afstandsbediening	• Het is mogelijk dat niet alle functies beschikbaar zijn voor bepaalde Apple-producten.
Oordopjes blijven niet zitten	• Bevestig de oordopjes stevig aan het oorstuk en het haakje van het oorstuk.
Oordopje verloren	• Neem contact op met Bose® voor reservedopjes.
Gedempt geluid uit oorstuk	• Verwijder vuil of oorsmeer uit de oordopjes en oorstukken van de hoofdtelefoon. • Koppel de hoofdtelefoon los van de audiobron en sluit deze vervolgens weer aan en controleer of deze goed is aangesloten. • Probeer een ander audioapparaat.

Gebruik van de hoofdtelefoon

Schoonmaken

De oorstukken moeten mogelijk af en toe worden schoongemaakt:

Oordopjes: verwijder de oordopjes van de hoofdtelefoon. Was de dopjes af met een zacht reinigingsmiddel en water. Zorg dat u de dopjes goed afspoelt en afdroogt voordat u ze terugplaatst op de hoofdtelefoon.

Oorstukken van de hoofdtelefoon: reinig de oorstukken alleen met een droge, zachte katoenen of soortgelijke doek. Steek nooit een schoonmaakhulpmiddel in het oorstuk.

Beperkte garantie

De Bose® SoundSport in-ear hoofdtelefoon wordt gedekt door een beperkte garantie. Informatie over de beperkte garantie wordt vermeld op de registratiekaart in de doos. Zie de kaart voor informatie over hoe u het product registreert. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

De bij dit product verstrekte garantie-informatie is niet van toepassing in Australië en Nieuw-Zeeland. Zie onze website op www.bose.com.au/warranty of www.bose.co.nz/warranty voor informatie over de garantie voor Australië en Nieuw-Zeeland.

Instrucciones importantes de seguridad

Lea atentamente esta guía del propietario y consérvela para consultarla en el futuro.



ADVERTENCIAS:

- **NO** use los auriculares a un volumen alto por un período prolongado.
 - Para evitar daños a la audición, use los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
 - Baje el volumen del dispositivo antes de colocar los auriculares en las orejas, suba gradualmente el volumen hasta alcanzar un nivel de audición cómodo.
- **TENGA** cuidado y acate las leyes correspondientes en cuanto al uso de teléfonos móviles y auriculares si usa auriculares para realizar llamadas mientras conduce. Algunas jurisdicciones imponen limitaciones específicas, como una configuración de un único audífono, sobre el uso de tales productos mientras se conduce.
- **NO** use los auriculares para otro fin mientras conduce.
- **CONCÉNTRESE** en su seguridad y en la de los demás si usa los auriculares mientras realiza una actividad que requiera su atención, por ejemplo mientras anda en bicicleta o camina en o cerca de tránsito, un sitio de construcción o las vías del ferrocarril, etc. Qútese los auriculares o ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los ruidos del entorno, incluyendo alarmas y señales de advertencia.
- **NO** use adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a los enchufes de los asientos de aviones, ya que podría producir lesiones personales como quemaduras o daños a la propiedad debido a sobrecalentamiento.
- **DEBE** quitárselos y desconectarlos de inmediato si experimenta una sensación de calor o pérdida de audio.
- **NO** sumerja o exponga al agua por períodos prolongados, ni use al realizar deportes acuáticos, es decir, nadar, esquí acuático, surf, etc.
- **NO** coloque fuentes con llamas al descubierto, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.



ADVERTENCIA:

Contiene piezas pequeñas que pueden representar un riesgo de asfixia. No es indicado para niños de menos de tres años de edad.



ADVERTENCIA:

Este producto contiene material magnético. Póngase en contacto con su médico si tiene preguntas acerca de si esto podría afectar el funcionamiento de un dispositivo médico implantable.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y que debe entregarse a un centro de recolección apropiado para reciclaje. La eliminación y el reciclado adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medioambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio de gestión de residuos o el comercio donde haya comprado este producto.



Este producto cumple con todos los requisitos de la directiva de la UE vigente. Puede encontrar la declaración completa de conformidad en www.Bose.com/compliance

Nombres y contenidos de las sustancias o elementos tóxicos o peligrosos						
Sustancias y elementos tóxicos o peligrosos						
Nombre de parte	Plomo (pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Hexavalente	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
Partes metálicas	X	O	O	O	O	O
Partes plásticas	O	O	O	O	O	O
Altavoces	X	O	O	O	O	O
Cables	X	O	O	O	O	O
Esta tabla se preparó conforme a las cláusulas de SJ/T 11364. O: Indica que dicha sustancia peligrosa que está presente en todos los materiales homogéneos para esta parte es inferior al requisito de límite en GB/T 26572. X: Indica que dicha sustancia peligrosa que está presente en al menos uno de los materiales homogéneos utilizados para esta parte se encuentra por encima del requisito de límite en GB/T 26572.						

©2015 Bose Corporation. No se puede reproducir, modificar, distribuir, o usar de otra manera ninguna parte de este trabajo sin previo consentimiento por escrito.

Acerca de los auriculares internos Bose® SoundSport®	4
Características	4
Contenido de la caja.....	5
Conexión a su dispositivo	6
Uso de los auriculares con su dispositivo	6
Controles de los auriculares.....	6
Funciones básicas	7
Funciones de reproducción de medios.....	7
Importancia de un ajuste adecuado	8
Cambio de las almohadillas.....	9
Conexión de un cable de extensión.....	9
Ajuste de comodidad y estabilidad	10
Uso del clip para la ropa	10
Uso de un solo audífono.....	10
Solución de problemas	11
Limpieza	12
Garantía limitada.....	12

iPad, iPhone y iPod son marcas registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. La marca comercial "iPhone" se usa con una licencia de Aiphone K.K.

"Made for iPod," "Made for iPhone," y "Made for iPad" significa que se ha diseñado un accesorio electrónico para conectar específicamente a iPod, iPhone, o iPad, respectivamente, y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no es responsable por el funcionamiento de este dispositivo o su cumplimiento con estándares regulatorios y de seguridad. Observe que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el desempeño inalámbrico.

Complete y conserve para su registro:

Los números de serie y de modelo se pueden encontrar en la tarjeta de la garantía.

Número de serie _____

Número de modelo _____

Fecha de compra _____

Le sugerimos que guarde el recibo con esta guía del usuario

Uso de los auriculares

Acerca de los auriculares internos Bose® SoundSport®


Los auriculares internos Bose® SoundSport® ofrecen sonido pleno y equilibrado que los auriculares deportivos convencionales no pueden igualar.

Características

- La exclusiva tecnología TriPort® ofrece graves de sonido natural, incluso en los niveles más altos de volumen.
- Resistente al sudor y a las inclemencias del tiempo.
- Las exclusivas almohadillas StayHear® se adaptan a la forma de las orejas y se mantienen cómodamente en su lugar, incluso al realizar ejercicio físico intenso y prolongado.
- El estuche liviano y duradero le permite guardar y proteger los auriculares.
- El micrófono y el control remoto en línea ofrecen control para determinados modelos iPod, iPhone y iPad.
- Diseñados y probados para ofrecer calidad perdurable y durabilidad.
- Disponibles en diferentes colores que se adaptan a su estilo.

Contenido de la caja

Desembale cuidadosamente la caja y confirme que estén incluidas las siguientes partes:




Nota: Los auriculares vienen con almohadillas StayHear® de tamaño mediano (grises) incorporadas.

Uso de los auriculares

Conexión a su dispositivo


Conecte los auriculares a la entrada para auriculares estándar de 3,5 mm en su iPod, iPhone o iPad.



Uso de los auriculares con su dispositivo

Los auriculares internos Bose® SoundSport® vienen con un micrófono y un control remoto de tres botones en línea.

Controles de los auriculares



Funciones básicas

Subir el volumen	Presione y suelte el botón +.
Bajar el volumen	Presione y suelte el botón -.
Responder una llamada	Cuando reciba una llamada entrante, presione y suelte el botón Responder/Colgar para atender
Finalizar una llamada	Presione y suelte el botón Responder/Colgar
Rechazar una llamada entrante	Mantenga presionado el botón Responder/Colgar durante aproximadamente dos segundos y luego, suéltelo.
Pasar a una llamada entrante o a una llamada en espera y poner la llamada en curso en espera	Durante una llamada, presione y suelte el botón Responder/Colgar una vez. Vuelva a presionar y soltar para volver a la primera llamada.
Pasar a una llamada entrante o a una llamada en espera y finalizar la llamada en curso	Durante una llamada, mantenga presionado el botón Responder/Colgar durante aproximadamente dos segundos y luego, suéltelo.
Uso del control de voz	Mantenga presionado el botón Responder/Colgar. Para obtener más información sobre el control de voz, consulte la guía del usuario del dispositivo.

Funciones de reproducción de medios

Reproducir o poner en pausa una canción o video	Presione y suelte el botón Responder/Colgar.
Salto adelante	Presione y suelte el botón Responder/Colgar dos veces rápidamente.
Avanzar	Presione y suelte el botón Responder/Colgar dos veces rápidamente y mantenga presionado la segunda vez.
Salto atrás	Presione y suelte el botón Responder/Colgar tres veces rápidamente.
Retroceder	Presione y suelte el botón Responder/Colgar tres veces rápidamente y mantenga presionado la tercera vez.

Uso de los auriculares

Importancia de un ajuste adecuado

Para un desempeño de audio óptimo, es importante elegir el tamaño de almohadilla StayHear® correcto. Seleccione el tamaño que le brinde la mejor comodidad y ajuste en cada oreja. Es posible que necesite probar con los tres tamaños para determinar el mejor ajuste.

Nota: Para probarlos, intente hablar en voz alta. Su voz deberá sonar amortiguada en ambos oídos. Si no es el caso, seleccione otro tamaño de almohadilla.


Cada almohadilla está marcada con una L o R. Asegúrese de colocar la almohadilla izquierda (L) al audífono izquierdo y la almohadilla derecha (R) al audífono derecho.



Para determinar si la almohadilla es del tamaño correcto:

1. Inserte el auricular en la oreja de manera que la almohadilla se coloque suavemente en la abertura del canal auditivo.
2. Inclíne el auricular hacia atrás y presione el ala de la almohadilla por debajo del borde de la oreja hasta que esté seguro.

Las almohadillas deben ajustarse cómodamente, pero de forma segura, al hueco de la oreja.



Cambio de las almohadillas

Seleccione el tipo y tamaño de la almohadilla que le brinde el ajuste más cómodo.


1. Despegue suavemente los bordes de la almohadilla adjunta hacia afuera del audífono, evitando dañar la almohadilla.

PRECAUCIÓN: Para evitar que se dañe, no tire del ala de la almohadilla StayHear®.

2. Coloque la abertura de la almohadilla nueva sobre la boquilla y la ranura pequeña sobre el gancho de la boquilla.

Nota: Cada almohadilla tiene marcada una **L** o una **R** para indicar a qué audífono corresponde. Asegúrese de ajustar la almohadilla StayHear® izquierda al audífono izquierdo y la almohadilla StayHear® derecha al audífono derecho.

3. Inserte la base de la almohadilla hacia abajo alrededor de la base del audífono hasta que esté segura.



Conexión de un cable de extensión

Conecte el cable de extensión para prolongar el largo del cable entre los auriculares y el dispositivo móvil.

1. Conecte el enchufe hembra del cable de extensión al cable del audífono.
2. Conecte el otro extremo del cable de extensión a la entrada estándar del audífono de 3,5 mm del dispositivo.


Uso de los auriculares

Ajuste de comodidad y estabilidad

Existen varias maneras de ajustar los auriculares para que proporcionen más comodidad y estabilidad. Puede personalizar la forma en que usa los auriculares con el ajuste deslizante y el clip para la ropa.

Uso del clip para la ropa

Use el clip para la ropa para sujetar el cable a la ropa para una mayor comodidad, estabilidad y para una mejor posición del cable. Esto puede resultar útil durante actividades de movimientos bruscos o al utilizar los auriculares con un solo audífono.



Uso de un solo audífono

Los auriculares internos Bose® SoundSport® solo se pueden usar con el audífono derecho (**R**) en la oreja. Esto le permite atender llamadas y oír los sonidos circundantes.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema con el uso de los auriculares, pruebe con las siguientes instrucciones de solución de problemas.

Problema	Qué hacer
No hay audio o es intermitente	• Conecte firmemente el enchufe de los auriculares a la entrada de auriculares. • Pruebe otro dispositivo de audio.
Bajo excesivo	• Apague todas las funciones de mejora de audio de la fuente de audio.
El micrófono no capta sonido	• Asegúrese de que esté usando un dispositivo compatible. Consulte la lista de dispositivos compatibles en la caja del producto. • Conecte firmemente el enchufe de los auriculares a la entrada de auriculares. • Asegúrese de que la abertura del micrófono en la parte posterior del botón Responder/ Colgar no esté bloqueada. • Pruebe con otra llamada telefónica. • Pruebe con otro dispositivo compatible.
El dispositivo no responde al presionar los botones del control remoto	• Conecte firmemente el enchufe de los auriculares a la entrada de auriculares. • Para funciones de multipulsación: Varíe la velocidad de las pulsaciones.
El dispositivo no responde al control remoto	• Es posible que no haya controles completos para algunos dispositivos Apple.
Se caen las almohadillas	• Coloque firmemente las almohadillas en el audífono y el gancho de la boquilla.
Perdió una almohadilla	• Póngase en contacto con Bose® para obtener almohadillas de repuesto.
El sonido del audífono es tenue	• Limpie todos los residuos o la acumulación de cera de la punta de los auriculares y las boquillas de los auriculares. • Desenchufe los auriculares de la fuente de audio, luego vuelva a enchufarlos asegurándose de que estén correctamente conectados. • Pruebe otro dispositivo de audio.

Uso de los auriculares

Limpieza

Los auriculares pueden requerir una limpieza periódica:

Almohadillas: Quite las almohadillas de los auriculares. Lávelas con una solución detergente suave y agua. Asegúrese de enjuagar bien y secarlas antes de volver a colocarlas en los auriculares.

Boquillas de los auriculares: Limpie solamente con un hisopo de algodón suave y seco o equivalente. Nunca inserte una herramienta de limpieza en la boquilla.

Garantía limitada

Los auriculares internos Bose® SoundSport están cubiertos por una garantía limitada. En la tarjeta de registro del producto que se incluye en la caja se encuentra los detalles de la garantía limitada. Consulte la tarjeta para obtener instrucciones sobre cómo registrarse. Si no lo registra, no afectará sus derechos de garantía limitada.

La información de la garantía que se proporciona con este producto no se aplica en Australia y en Nueva Zelanda. Visite nuestro sitio web en www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty para obtener detalles de la garantía de Australia y Nueva Zelanda.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.



VAROITUKSIA:

- **ÄLÄ** käytä kuulokkeita pitkään suurella äänenvoimakkuudella.
 - Säädä äänenvoimakkuus mukavaksi ja kohtuulliseksi, jotta vältät kuulovaurion.
 - Säädä äänenvoimakkuus pieneksi ennen kuin asetat kuulokkeet korville. Lisää äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes löydät mukavan kuunteluvoimakkuuden.
- **TOIMI** varovaisesti. Noudata lakeja, jotka koskevat matkapuhelimen ja kuulokkeiden käyttöä autolla ajettaessa. Tietyissä maissa on käytössä rajoituksia, jotka edellyttävät esimerkiksi vain yhden kuulokkeen käyttämistä autoa ajettaessa.
- **ÄLÄ** käytä kuulokkeita mihinkään muihin tarkoituksiin autolla ajamisen aikana.
- **KESKITY** omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen, jos käytät kuulokkeita esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä tai esimerkiksi rakennustyömaalla tai rautatien lähellä. Ota tällöin kuulokkeet pois korviltasi tai säädä äänenvoimakkuus riittävän hiljaiseksi, jotta kuulet taustaaänet, kuten hälytykset ja varoitukset.
- **ÄLÄ** yhdistä kuulokkeita lentokoneen istuimen matkapuhelinlatausliitäntään. Ylikuumeneminen voi muutoin aiheuttaa palovamman tai muun henkilövahingon tai vaurioittaa kuulokkeita.
- **IRROTA** liitin heti liitännästä, jos tunnet kuulokkeiden lämpiävän tai ääntä ei kuulu.
- **ÄLÄ** upota kuulokkeita veteen pitkäksi ajaksi äläkä käytä niitä vesiuheilussa, esimerkiksi uidesasi, vesihiihtäessäsi tai lainelautaillessasi.
- **ÄLÄ** laita laitteen päälle tai lähelle avotulta, esimerkiksi palavaa kynttilää.



VAROITUS:

Laitteessa on pieniä osia. Ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi.



VAROITUS:

Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.



Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.



Tämä tuote täyttää kaikkien sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance

Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö						
	Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet					
Osan nimi	Lyijy (Pb)	Elohopea (Hg)	Kadmium (Cd)	Kuusiarvoinen (CR(VI))	Polybrominoitu bifenyyli (PBB)	Polybrominoitu difenyylieteetri (PBDE)
PCB-yhdisteet	X	O	O	O	O	O
Metalliosat	X	O	O	O	O	O
Muoviosat	O	O	O	O	O	O
Kaiuttimet	X	O	O	O	O	O
Johdot	X	O	O	O	O	O
Tämä taulukko on laadittu SJ/T 11364 -määräysten mukaisesti.						
O: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle GB/T 26572 -raja-arvon.						
X: Ilmaisee, että tätä vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli GB/T 26572 -raja-arvon.						

©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tietoja Bose® SoundSport® in-ear -kuulokkeista.....	4
Ominaisuudet	4
Pakkauksen sisältö.....	5
Yhdistäminen laitteeseen.....	6
Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa.....	6
Kuulokkeiden säätimet	6
Perustoiminnot.....	7
Mediatoistotoiminnot	7
Oikean sopivuuden merkitys.....	8
Sovittimien vaihtaminen.....	9
Jatkojohdon yhdistäminen	9
Kuulokkeiden säätäminen mukaviksi ja hyvin paikallaan pysyviksi	10
Vaatekiinnikkeen käyttäminen.....	10
Vain yhden korvakuulokkeen käyttäminen.....	10
Ongelmanratkaisu.....	11
Puhdistaminen	12
Rajoitettu takuu.....	12

iPad, iPhone ja iPod ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. iPhone-tavaramerkkiä käytetään Aiphone K.K:n lisenssillä.

Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsee, että sähkölaite on suunniteltu erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin yhdistettäväksi. Sen kehittäjä vakuuttaa, että se täyttää Applen vaatimukset. Apple ei vastaa tällaisen laitteen toiminnasta tai siitä, että se täyttää turvallisuusvaatimukset ja on määräysten mukainen. Huomaa, että tämän varusteen käyttäminen iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattoman tiedonsiirron suorituskykyyn.

Säilytä tiedot.

Sarja- ja mallinumerot näkyvät takuukortissa.

Sarjanumero _____

Mallinumero _____

Ostopäivä _____

On suositeltavaa säilyttää ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.

Kuulokkeiden käyttäminen

Tietoja Bose® SoundSport® in-ear -kuulokkeista


Bose® SoundSport® in-ear -kuulokkeet tarjoavat täyteläisen, tasapainoisen äänen, johon perinteiset urheilukuulokkeet eivät yllä.

Ominaisuudet

- Ainutlaatuinen TriPort®-tekniikka saa matalat äänet kuulumaan luonnollisina myös suurella äänenvoimakkuudella.
- Hien- ja säänkestävä.
- Ainutlaatuiset StayHear®-sovitteet myötäilevät korviesi muotoa, joten ne pysyvät paikallaan jopa pitkään kestävässä rankan harjoittelun aikana.
- Kuulokkeita voi säilyttää kevyessä kestävässä kotelossa, joka suojaa niitä.
- Johtoon kiinnitetty mikrofoni ja kaukosäädin ovat yhteensopivia tiettyjen iPod-, iPhone- ja iPad-mallien kanssa.
- Suunnitellusti ja testatusti pitkäkestoinen ja kestävä.
- Värivalikoimasta löytyy omaan tyyliisi sopiva väri.

Pakkauksen sisältö

Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:




Huomautus: Kuulokkeisiin on kiinnitetty valmiiksi keskikokoiset (harmaat) StayHear®-silikonisovitteet.

Kuulokkeiden käyttäminen

Yhdistäminen laitteeseen


Yhdistä kuulokkeet iPodin, iPhone:n tai iPadin tavalliseen 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.



Kuulokkeiden käyttäminen yhdessä laitteen kanssa

Bose® SoundSport® in-ear -kuulokkeissa on johtoon kiinnitetty mikrofoni ja 3-painikkeinen kaukosäädin.

Kuulokkeiden säätimet



Perustoiminnot

Äänenvoimakkuuden lisääminen	Paina +-painiketta ja vapauta se.
Äänenvoimakkuuden vähentäminen	Paina – -painiketta ja vapauta se.
Puheluun vastaaminen	Kun puhelu saapuu, voit vastata siihen painamalla vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauttamalla sen.
Puhelun lopettaminen	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se.
Saapuvan puhelun hylkääminen	Pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
Vuorottelemisen kahden puhelun välillä tai puhelun asettaminen pitoon	Kun puhelu on meneillään, paina vastaus-/lopetuspainiketta kerran. Voit ottaa ensimmäisen puhelun käyttöön painamalla ja vapauttamalla uudelleen.
Vuorottelemisen kahden puhelun välillä ja meneillään olevan puhelun lopettaminen	Kun puhelu on meneillään, pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna noin kaksi sekuntia ja vapauta se.
Äänikomentojen käyttäminen	Pidä vastaus-/lopetuspainiketta painettuna. Äänitoimintojen käyttämisestä on lisätietoja laitteen käyttöohjeessa.

Mediatoistotoiminnot

Musiikin tai videoleikkeen toistaminen tai asettaminen taukotilaan	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se.
Siirtyminen eteenpäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta nopeasti kaksi kertaa.
Eteenpäinkelaus	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se nopeasti kaksi kertaa. Paina toisella kerralla pitkään.
Siirtyminen taaksepäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta nopeasti kolme kertaa ja vapauta se.
Pikakelaus taaksepäin	Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja vapauta se nopeasti kolme kertaa. Paina kolmannella kerralla pitkään.


Kuulokkeiden käyttäminen

Oikean sopivuuden merkitys

Oikeankokoisen StayHear®-sovitteen valinta on tärkeää ihanteellisen kuuntelukokemuksen kannalta. Valitse parhaiten sopiva ja mukavin koko. Parhaan sopivuuden löytämiseksi on ehkä kokeiltava kaikkia kolmea kokovaihtoehtoa.

Huomautus: Kokeile sopivuutta puhumalla ääneen. Äänesi tulee kuulua vaimeana molemmissa korvissa. Jos näin ei käy, valitse toinen kärjen koko.


Kärjissä on L- ja R-merkintä. Kiinnitä vasen (L-merkitty) vasempaan korvaosaan ja oikea (R-merkitty) oikeanpuoleiseen korvaosaan.



Sovitteen oikean koon määrittäminen:

1. Aseta kuulokkeet korviin siten, että sovite koskettaa korvakanavan aukkoa.
2. Kallista kuuloketta taaksepäin ja paina sovitteen siipiosaa korvan kohouman alle, jotta se on varmasti paikallaan.

Sovitteiden on oltava mukavasti ja tiukasti korvan syvänteessä.



Sovittimien vaihtaminen

Valitse parhaiten sopiva korvakärkien koko ja tyyppi.


1. Irrota sovittimen reunat varovaisesti korvakappaleesta. Varo, ettei sovite repeydy.

Huomio: Älä vedä sovittimen siipiosaa.

2. Aseta uuden sovittimen aukko nokkamaisen osan päälle. Aseta pieni aukko nokkamaisen osan sovittimen päälle.

Huomautus: Kärjissä on L- ja R-merkintä, jotta tiedät, kumpaan korvaan kuuloke tulee. Kiinnitä vasen (L-merkitty) StayHear®-sovite vasempaan korvaosaan ja oikea (R-merkitty) StayHear®-sovite oikeanpuoleiseen korvaosaan.

3. Säädä sovittimen tyvää korvakappaleen ympärillä, kunnes sovite on tukevasti paikallaan.



Jatkojohdon yhdistäminen

Voit pidentää kuulokkeiden ja mobiililaitteen välistä johtoa jatkojohdon avulla.

1. Yhdistä jatkojohdon naarasliitäntä kuulokejohtoon.
2. Yhdistä jatkojohdon toinen pää laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitäntään.


Kuulokkeiden käyttäminen

Kuulokkeiden säätäminen mukaviksi ja hyvin paikallaan pysyviksi

Voit säätää kuulokkeita useilla eri tavoilla, jotta ne pysyvät paikallaan mukavasti. Voit mukauttaa kuulokkeiden käyttötapaa liukuvan säätimen ja vaatekiinnikkeen avulla.

Vaatekiinnikkeen käyttäminen

Voit kiinnittää johdon vaatteisiisi vaatekiinnikkeellä. Tämä lisää mukavuutta ja vakautta sekä auttaa hallitsemaan johtoa. Tästä voi olla hyötyä liikunnan aikana tai jos käytät vain toista korvakuuloketta.



Vain yhden korvakuulokkeen käyttäminen

Bose® SoundSport™ in-ear -kuulokkeita voidaan käyttää myös vain oikeanpuoleista (R) korvakuuloketta käyttämällä. Voit tällöin puhua puhelimesta ja kuulla samalla, mitä ympärillä tapahtuu.

Ongelmanratkaisu

Jos kuulokkeiden käytössä esiintyy ongelmia, kokeile seuraavia ratkaisuja.

Ongelma	Toimintaohjeet
Ääntä ei kuulu tai ääni kuuluu jaksoittain.	• Yhdistä kuulokejohdon liitin kuulokeliitintään tiukasti. • Kokeile toista äänilaitetta.
Liian voimakas bassotoisto.	• Poista käytöstä äänilähteen äänenkorjaustoiminnot.
Mikrofoni ei reagoi ääneen.	• Varmista, että käytät yhteensopivaa laitetta. Luettelo yhteensopivista laitteista on tuotteen pakkauksessa. • Yhdistä kuulokejohdon liitin kuulokeliitintään tiukasti. • Varmista, että mikrofonia ei ole peitetty. Mikrofoni sijaitsee vastaus-/lopetuspainikkeen takana. • Koeta soittaa toiseen puhelinnumeroon. • Kokeile toista yhteensopivaa laitetta.
Laite ei vastaa kaukosäätimen painikkeiden painamiseen.	• Yhdistä kuulokejohdon liitin kuulokeliitintään tiukasti. • Monen painalluksen toiminnot: vaihtele painamisnopeutta.
Laite ei vastaa kaukosäätimen käyttämiseen.	• Kaikkien Apple-tuotteiden kaikkia toimintoja ei ehkä voi ohjata kaukosäätimen avulla.
Korvasovitteet irtoavat.	• Kiinnitä silikonisovitteet kunnolla kuulokkeisiin ja nokkamaiseen osaan.
Sovite on kadonnut.	• Tilaa uudet sovitteet Boselta®.
Ääni kuuluu korvakuulokkeesta tukkoisesti.	• Poista mahdollinen lika ja korvavaha silikonisovitteista ja kuulokkeiden nokkamaisista osista. • Irrota kuulokkeet äänilähteestä ja yhdistä ne siihen uudelleen tiukasti. • Kokeile toista äänilaitetta.

Kuulokkeiden käyttäminen

Puhdistaminen

Kuulokkeet on ehkä puhdistettava säännöllisesti.

Sovitteet: Irrota silikonisovitteet kuulokkeista. Pese ne vedellä ja miedolla pesuaineella. Varmista, että huuhtelet ja kuivaat sovitteet ennen niiden asettamista takaisin kuulokkeisiin.

Kuulokkeiden suuttimet: Puhdista vain kuivalla, pehmeällä pumpulitupolla tai vastaavalla. Älä koskaan työnnä mitään puhdistusvälinettä suuttimeen.

Rajoitettu takuu

Bose® SoundSport in-ear -kuulokkeilla on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.

Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uudessa-Seelannissa. Osoitteessa www.bose.com.au/warranty ja www.bose.com.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.

Instructions importantes relatives à la sécurité

Lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.



AVERTISSEMENTS :

- Veillez à **NE PAS** utiliser vos écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée.
 - Pour éviter des dommages auditifs, utilisez les écouteurs à un volume confortable, mais modéré.
 - Baissez le volume de l'appareil avant de placer les écouteurs sur les oreilles, puis augmentez le volume progressivement jusqu'à ce que le niveau d'écoute vous convienne.
- **Soyez vigilant** et respectez la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de casques et écouteurs avec des téléphones portables si vous utilisez les écouteurs pour passer ou recevoir des appels pendant que vous conduisez. Certaines juridictions imposent des limites spécifiques d'utilisation tout en conduisant, par exemple le port d'un seul écouteur.
- Veillez à **NE PAS** utiliser les écouteurs à d'autres fins lorsque vous conduisez.
- **Restez vigilant**, pensez à votre sécurité et à celle des autres lorsque vous utilisez les écouteurs tout en exerçant une activité nécessitant votre attention, notamment lorsque vous circulez à vélo ou à pied sur ou à proximité d'une route transitée, d'un chantier, d'une voie de chemin de fer, etc. Retirez les écouteurs ou réglez le volume pour être en mesure d'entendre les sons ambiants, y compris les klaxons, alarmes et signaux d'avertissement.
- Veillez à **NE PAS** utiliser les adaptateurs pour téléphone portable pour connecter vos écouteurs au système audio des cabines d'avion. Le dégagement de chaleur qui en résulterait est susceptible de provoquer des brûlures ou d'endommager les écouteurs.
- Si vous ressentez de la chaleur ou une perte de signal audio, retirez et déconnectez les écouteurs immédiatement.
- Veillez à **NE PAS** immerger vos écouteurs dans l'eau ou les exposer à l'eau pendant des périodes prolongées, et à ne pas les porter pour pratiquer des sports aquatiques (natation, ski nautique, surf, etc.).
- **Ne placez PAS** d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur ce produit.



AVERTISSEMENT :

certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENT :

ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Ce produit est conforme à toutes les directives de l'Union européenne qui s'y appliquent. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Plomb (Pb)	Mercurc (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphenyle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O
Les données de ce tableau sont conformes aux dispositions de la norme SJ/T 11364.						
O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans GB/T 26572.						
X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans GB/T 26572						



À propos de vos écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundSport®	4
Caractéristiques.....	4
Contenu de l'emballage.....	5
Raccordement à votre appareil.....	6
Utilisation du casque avec votre appareil.....	6
Commandes du casque	6
Fonctions de base.....	7
Fonctions de lecture multimédia	7
Importance d'une adaptation correcte.....	8
Changement d'embouts.....	9
Fixation du câble d'extension.....	9
Réglage des écouteurs pour plus de confort et de stabilité.....	10
Utilisation de la pince de fixation.....	10
Utilisation d'un seul écouteur.....	10
Résolution des problèmes	11
Nettoyage.....	12
Garantie limitée	12

iPad, iPhone et iPod sont des marques commerciales d'Apple Inc., et des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays La marque de commerce « iPhone » est utilisée sous licence d'Apple K.K.

Les expressions « Made for iPod », « Made for iPhone » et « Made for iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qui a été certifié par son fabricant comme conforme aux normes de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Notez que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir une incidence sur ses fonctions de liaison sans fil.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués sur la carte de garantie.

Numéro de série _____

Modèle _____

Date d'achat _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec cette notice d'utilisation.

Utilisation du casque

À propos de vos écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundSport®


Les écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundSport® offrent un son riche et équilibré que les écouteurs sport habituels ne sont pas capables de restituer.

Caractéristiques

- Technologie TriPort® exclusive permettant un rendu naturel des basses fréquences, même à un niveau de volume élevé.
- Résistance à la transpiration et aux intempéries.
- Embouts StayHear® exclusifs qui s'adaptent à la forme de l'oreille afin d'assurer une stabilité et un confort optimaux, même pendant les séances de sport les plus intensives.
- Étui léger et solide permettant de ranger et de protéger les écouteurs.
- Le microphone et la télécommande intégrés permettent de contrôler certains modèles d'iPod, d'iPhone et d'iPad.
- Conçus et testés pour offrir une qualité supérieure et une grande durabilité.
- Plusieurs couleurs disponibles pour personnaliser votre style.

Contenu de l'emballage

Déballez les éléments avec précaution et vérifiez la présence de tous les composants décrits ci-dessous :




Remarque : les écouteurs sont livrés avec les embouts StayHear® de taille moyenne (gris) installés.

Utilisation du casque

Raccordement à votre appareil


Raccordez les écouteurs à la prise casque standard de 3,5 mm de votre iPod, iPhone ou iPad.



Utilisation du casque avec votre appareil

Les écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundSport® sont dotés d'un microphone et d'une télécommande à 3 boutons intégrés.

Commandes du casque



Fonctions de base

Augmenter le volume	Appuyez sur le bouton +, puis relâchez-le.
Réduire le volume	Appuyez sur le bouton -, puis relâchez-le.
Répondre à un appel	Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher pour répondre, puis relâchez-le.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Refuser un appel	Maintenez enfoncée le bouton Répondre/Raccrocher pendant deux secondes.
Prendre un autre appel en mettant en attente la communication en cours	Pendant une communication, appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher, puis relâchez-le. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour revenir à la première communication.
Prendre un autre appel en mettant fin à la communication en cours	Pendant une communication, maintenez enfoncé le bouton Répondre/Raccrocher pendant deux secondes.
Commandes vocales	Maintenez enfoncé le bouton de Répondre/Raccrocher. Pour plus d'informations sur les commandes vocales, consultez la notice d'utilisation de votre appareil.

Fonctions de lecture multimédia

Lecture ou mise en pause d'un enregistrement audio ou vidéo	Appuyez sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Saut avant	Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Avance rapide	Appuyez rapidement à deux reprises sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez la seconde pression.
Saut arrière	Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton Répondre/Raccrocher.
Retour rapide	Appuyez rapidement à trois reprises sur le bouton Répondre/Raccrocher et maintenez la troisième pression.

Utilisation du casque

Importance d'une adaptation correcte

Pour obtenir des performances audio optimales, il est important de choisir la taille correcte d'embout StayHear®. Sélectionnez la taille d'embout qui vous offre le plus de confort et d'aisance. Il peut être nécessaire d'essayer les trois tailles pour déterminer la mieux adaptée.


Remarque : pour tester les embouts, essayez de parler fort. Votre voix doit vous paraître étouffée dans les deux écouteurs. Si ce n'est pas le cas, essayez un autre embout.

Chaque embout est identifié par la lettre L ou R. Veillez à bien fixer l'embout marqué L à l'écouteur de gauche et l'embout marqué R à l'écouteur de droite.



Pour déterminer si l'embout installé est de la taille adaptée :

1. Insérez l'écouteur dans l'oreille de manière à ce que l'embout repose dans l'ouverture du canal auriculaire.
 2. Inclinez à nouveau les écouteurs vers l'arrière et appuyez sur l'ailette de l'embout sous le rebord de l'oreille jusqu'à ce qu'elle se mette en place.
- Les embouts doivent reposer confortablement dans le creux de l'oreille.



Changement d'embouts

Sélectionnez le type et la taille d'embouts qui vous offrent le plus de confort et d'adaptation.


1. Décollez doucement les bords de l'embout moyen, en veillant à ne pas déchirer celui-ci.

Attention : pour éviter tout dommage, ne tirez pas sur l'ailette de l'embout StayHear®.

2. Positionnez l'ouverture du nouvel embout sur la canule et la petite fente au-dessus de la crosse de celle-ci.

Remarque : chaque embout est marqué d'une lettre, **L** pour l'oreille gauche et **R** pour l'oreille droite. Veillez à bien fixer l'embout StayHear® marqué L à l'écouteur de gauche et l'embout StayHear® marqué R à l'écouteur de droite.

3. Insérez la base de l'embout autour de celle de l'écouteur jusqu'à ce que ce que l'embout soit bien fixé.



Fixation du câble d'extension

Fixez le câble d'extension pour augmenter la longueur du câble entre les écouteurs et l'appareil mobile.

1. Raccordez la prise femelle du câble d'extension au câble de casque.
2. Raccordez l'autre extrémité du câble d'extension à la prise casque standard de 3,5 mm de votre appareil.


Utilisation du casque

Réglage des écouteurs pour plus de confort et de stabilité

Il existe plusieurs façons de modifier la configuration de vos écouteurs pour en améliorer le confort et la stabilité. Vous pouvez personnaliser le port de vos écouteurs à l'aide de la glissière d'ajustement et de la pince de fixation.

Utilisation de la pince de fixation

Utilisez la pince de fixation pour fixer le câble à votre vêtement, à la fois pour des raisons de confort et de stabilité, mais aussi pour ne pas être gêné par le câble, en particulier durant des activités physiques ou lorsque vous n'utilisez qu'un seul écouteur.



Utilisation d'un seul écouteur

Il est possible d'utiliser les écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundSport® avec l'écouteur droit (**R**) uniquement. Vous pouvez ainsi répondre à un appel sans vous couper de votre environnement.

Résolution des problèmes

En cas de problème lors de l'utilisation de vos écouteurs, consultez les instructions ci-dessous.

Problème	Mesure corrective
Absence de son/son intermittent	• Raccordez correctement la prise casque à l'entrée de casque. • Essayez d'utiliser un autre lecteur audio
Trop de graves	• Désactivez les fonctions d'optimisation audio de la source audio.
Le microphone ne transmet pas les sons	• Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible. Reportez-vous à la liste des appareils compatibles sur l'emballage du produit. • Raccordez correctement la prise casque à l'entrée de casque. • Vérifiez que l'ouverture du microphone à l'arrière du bouton de réponse/raccrochage n'est pas bloquée. • Essayez de passer un nouvel appel. • Essayez d'utiliser un autre appareil compatible.
L'appareil ne réagit pas aux boutons de la télécommande	• Raccordez correctement la prise casque à l'entrée de casque. • Pour les commandes à plusieurs pressions : changez la vitesse des pressions.
L'appareil ne réagit pas à la télécommande	• Certaines commandes ne fonctionnent pas sur tous les produits Apple.
Les embouts tombent	• Fixez correctement les embouts aux écouteurs et à la crosse de la canule.
Embout perdu	• Contactez Bose® pour obtenir des embouts de rechange.
Le son est étouffé	• Nettoyez les embouts et les canules afin de retirer les saletés et la cire accumulés. • Débranchez le casque de la source audio, puis rebranchez-le en veillant à ce qu'il soit bien connecté. • Essayez d'utiliser un autre lecteur audio

Utilisation du casque

Nettoyage

Il peut être nécessaire de nettoyer votre casque à intervalles réguliers :

Embouts : retirez les embouts des écouteurs. Lavez-les avec une solution à base d'eau et de détergent doux. Veillez à bien les rincer et à les laisser sécher avant de les replacer sur les écouteurs.

Canules des écouteurs : utilisez uniquement un coton-tige sec ou l'équivalent pour les nettoyer. N'insérez jamais d'instrument de nettoyage dans les canules.

Garantie limitée

Vos écouteurs intra-auriculaires Bose® SoundSport sont couverts par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui accompagne votre système. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web www.bose.com.au/warranty ou www.bose.co.nz/warranty pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

Importanti istruzioni di sicurezza

Leggere questo manuale d'uso e conservarlo come riferimento per il futuro.



AVVERTENZE:

- **NON** usare le cuffie a un volume elevato per un lungo periodo di tempo.
 - Per evitare danni all'udito, usare le cuffie a un livello di volume confortevole e moderato.
 - Abbassare il volume del dispositivo prima di indossare le cuffie, quindi alzarlo gradualmente fino a raggiungere il livello d'ascolto più confortevole.
- **USARE CAUTELA** e osservare le leggi vigenti relative all'uso di telefoni cellulari e cuffie se si usano le cuffie per conversazioni telefoniche durante la guida. Alcune giurisdizioni prevedono restrizioni specifiche, ad esempio l'utilizzo di un solo auricolare, per l'impiego di tali prodotti durante la guida.
- **NON** usare le cuffie per qualsiasi altro scopo durante la guida.
- **È IMPORTANTE** non perdere mai di vista la propria sicurezza e quella degli altri se si usano le cuffie mentre si svolge un'attività che richiede la propria attenzione, ad esempio quando si va in bicicletta o si cammina vicino a una strada trafficata, un cantiere o una ferrovia, ecc. Rimuovere le cuffie o regolare il volume per essere sicuri di sentire i suoni circostanti, inclusi i segnali di allarme e di avvertimento.
- **NON** utilizzare un adattatore per telefono cellulare per collegare le cuffie ai connettori presenti sui sedili degli aerei, per evitare il rischio di scottature o danni dovuti al surriscaldamento.
- **RIMUOVERE** e scollegare immediatamente le cuffie se si percepisce un aumento di temperatura o si riscontra una perdita di audio.
- **NON** immergere o esporre all'acqua le cuffie per periodi prolungati né indossarle quando si praticano sport acquatici quali nuoto, sci d'acqua, surf, ecc.
- **NON** collocare sorgenti di fiamme libere (ad esempio candele accese) sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.



AVVERTENZA:

Contiene pezzi di piccole dimensioni che possono rappresentare un pericolo di soffocamento. Non adatto per bambini di età inferiore ai 3 anni.



AVVERTENZA:

questo prodotto contiene materiale magnetico. Rivolgersi al proprio medico per eventuali domande sui possibili effetti del prodotto sui dispositivi medici impiantati nel corpo umano.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici, ma deve essere consegnato a una struttura di raccolta appropriata per il riciclaggio. Uno smaltimento e un riciclaggio corretti aiutano a preservare le risorse naturali, la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi alle autorità locali, al servizio di smaltimento dei rifiuti o al negozio presso il quale è stato acquistato.



Questo prodotto è conforme a tutti i requisiti pertinenti delle direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo: www.Bose.com/compliance

Nome e contenuto delle sostanze o degli elementi tossici o pericolosi						
	Sostanze ed elementi tossici o pericolosi					
Nome parte	Piombo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo esavalente (CR(VI))	Bifenile polibromurato (PBB)	Difenil etero polibromurato (PBDE)
Circuiti stampati	X	O	O	O	O	O
Parti di metallo	X	O	O	O	O	O
Parti di plastica	O	O	O	O	O	O
Diffusori	X	O	O	O	O	O
Cavi	X	O	O	O	O	O
Questa tabella è stata messa a punto in accordo a quanto previsto dallo standard SJ/T 11364. O: indica che la sostanza pericolosa contenuta in tutti i materiali omogenei della parte è inferiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572. X: indica che la sostanza pericolosa contenuta in almeno uno dei materiali omogenei della parte è superiore al limite previsto dallo standard GB/T 26572.						

Informazioni sulle cuffie in-ear Bose® SoundSport®	4
Caratteristiche	4
Contenuto della confezione	5
Collegamento del dispositivo	6
Uso delle cuffie con il dispositivo	6
Controlli delle cuffie.....	6
Funzioni di base	7
Funzioni di riproduzione multimediale.....	7
Importanza del comfort	8
Sostituzione dei puntali.....	9
Collegamento del cavo di prolunga.....	9
Ulteriori regolazioni per garantire comfort e stabilità	10
Uso della clip per abiti	10
Uso di un auricolare singolo.....	10
Risoluzione dei problemi.....	11
Pulizia	12
Garanzia limitata	12

iPad, iPhone e iPod sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio "iPhone" è utilizzato su licenza di Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" e "Made for iPad" significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificamente a un iPod, iPhone o iPad rispettivamente ed è coperto dalla certificazione dello sviluppatore che assicura la conformità agli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della conformità dello stesso agli standard di sicurezza e normativi. L'uso di questo accessorio con un iPod, iPhone o iPad può influire sulle prestazioni wireless.

Compilare e conservare le seguenti informazioni:

I numeri di serie e di modello si trovano sulla scheda della garanzia.

Numero di serie

Numero di modello

Data d'acquisto

È consigliabile conservare la ricevuta insieme a questo manuale di istruzioni.

Utilizzo delle cuffie

Informazioni sulle cuffie in-ear

Bose® SoundSport®


Le cuffie in-ear Bose® SoundSport® offrono un audio pieno e bilanciato impossibile da ottenere con i tradizionali auricolari sportivi.

Caratteristiche

- Esclusiva tecnologia TriPort® per bassi dal timbro naturale, anche a volumi elevati.
- Resistenza al sudore e agli agenti atmosferici.
- Gli inserti StayHear® proprietari si adattano in modo sicuro e confortevole alla forma dell'orecchio, in modo da rimanere saldi anche durante allenamenti intensi e di lunga durata.
- La custodia, leggera e resistente, permette di conservare e proteggere le cuffie.
- Il microfono e il telecomando in linea consentono di controllare modelli specifici di iPod, iPhone e iPad.
- Progettate e testate per la massima qualità e durevolezza.
- Disponibili in un'ampia gamma di colori tra cui scegliere quello più adatto al proprio stile.

Contenuto della confezione

Aprire con cautela la confezione e verificare che i seguenti componenti siano inclusi:




Nota: Le cuffie vengono fornite con puntali StayHear® medi (grigi) già montati.

Utilizzo delle cuffie

Collegamento del dispositivo


Collegare le cuffie al connettore per cuffie standard da 3,5 mm dell'iPod, iPhone o iPad.



Uso delle cuffie con il dispositivo

Le cuffie in-ear Bose® SoundSport® sono dotate di un microfono in linea e di un telecomando a tre pulsanti.

Controlli delle cuffie



Funzioni di base

Aumentare il volume	Premere e rilasciare il pulsante +.
Ridurre il volume	Premere e rilasciare il pulsante -.
Rispondere a una chiamata	Quando si riceve una chiamata, premere e rilasciare il tasto Rispondi/Fine per rispondere
Chiudere una chiamata	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine.
Rifiutare una chiamata in arrivo	Premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine per circa due secondi, quindi rilasciarlo.
Passare a una chiamata in attesa mettendo in attesa quella corrente	Durante una conversazione, premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine una volta. Premerlo e rilasciarlo di nuovo per tornare alla prima chiamata.
Passare a una chiamata in arrivo o in attesa chiudendo quella corrente	Durante una conversazione, premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine per circa due secondi, quindi rilasciarlo.
Usare il controllo vocale	Premere e tenere premuto il pulsante Rispondi/Fine. Per ulteriori informazioni sul controllo vocale, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo.

Funzioni di riproduzione multimediale

Riprodurre o mettere in pausa un brano musicale o un video	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine.
Salto in avanti	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine due volte in rapida successione.
Avanti rapido	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine due volte in rapida successione, tenendo premuto dopo la seconda pressione.
Salto all'indietro	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine tre volte in rapida successione.
Riavvolgimento	Premere e rilasciare il pulsante Rispondi/Fine tre volte in rapida successione, tenendo premuto dopo la terza pressione.


Utilizzo delle cuffie

Importanza del comfort

Per assicurare prestazioni audio ottimali, è importante scegliere i puntali StayHear® della dimensione corretta. Selezionare il formato che offre il maggiore comfort quando inserito nell'orecchio. Potrebbe essere necessario provare tutte e tre le taglie per trovare quella che si adatta meglio alla propria conformazione auricolare.

Nota: Per verificare se si adattano bene alle orecchie, provare a parlare a voce alta. Il suono della propria voce deve risultare smorzato in entrambe le orecchie. In caso contrario, provare un puntale di un'altra taglia.


Ciascun puntale è contrassegnato dalla lettera L o R. Assicurarsi di collegare il puntale sinistro (L) all'auricolare sinistro e il puntale destro (R) a quello destro.



Per stabilire se il puntale è della taglia corretta:

1. Inserire la cuffia nell'orecchio in modo che il puntale si insedi delicatamente nell'apertura del canale auricolare.
2. Inclinare le cuffie all'indietro e premere l'archetto sotto il lobo dell'orecchio fino a fissarlo.

I puntali devono risultare comodi ma allo stesso tempo saldi nell'incavo dell'orecchio.



Sostituzione dei puntali

Selezionare il tipo e la dimensione del puntale più adatta al proprio orecchio.


1. Staccare delicatamente i bordi del puntale per rimuoverlo dall'auricolare, facendo attenzione a non strapparli.

Attenzione: Per evitare di danneggiare le cuffie, non tirare l'archetto StayHear®.

2. Posizionare l'apertura del nuovo puntale sopra l'ugello e la piccola fessura sopra il gancio dell'ugello.

Nota: Ogni puntale è contrassegnato con l'indicazione del lato corretto, **L** (left, sinistro) o **R** (right, destro). È importante abbinare il puntale StayHear® sinistro all'auricolare sinistro e il puntale StayHear® destro all'auricolare destro.

3. Adattare la base del puntale sulla base dell'auricolare fino a quando non è completamente fissata.



Collegamento del cavo di prolunga

Collegare il cavo di prolunga per estendere la distanza tra le cuffie e il dispositivo mobile.

1. Collegare l'estremità femmina del cavo di prolunga al cavo delle cuffie.
2. Collegare l'estremità opposta del cavo di prolunga all'ingresso per cuffie standard da 3,5 mm del dispositivo.


Utilizzo delle cuffie

Ulteriori regolazioni per garantire comfort e stabilità

Sono disponibili vari modi per regolare le cuffie al fine di migliorarne ulteriormente il comfort e la stabilità. È possibile personalizzare il modo di indossare le cuffie utilizzando il cursore di regolazione e la clip per abiti.

Uso della clip per abiti

Utilizzando la clip per abiti per fissare il cavo ai vestiti è possibile migliorare la praticità d'uso e la stabilità e ottimizzare la gestione del cavo. In particolare, la clip risulta utile quando si è in costante movimento oppure quando si indossa un solo auricolare.



Uso di un auricolare singolo

Le cuffie in-ear Bose® SoundSport® possono essere utilizzate anche inserendo solo l'auricolare destro (**R**) nell'orecchio. In questo modo è possibile rispondere alle chiamate senza isolarsi dall'ambiente circostante.

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi durante l'uso delle cuffie, provare ad adottare le soluzioni indicate in questa sezione.

Problema	Soluzione
Assenza di audio/audio intermittente	• Collegare bene lo spinotto delle cuffie all'ingresso corrispondente. • Provare con un altro dispositivo audio.
Bassi eccessivi	• Disattivare qualsiasi funzione di ottimizzazione del suono nella sorgente audio.
Il microfono non rileva alcun suono	• Assicurarsi che il dispositivo utilizzato sia compatibile. Consultare l'elenco dei dispositivi compatibili sulla confezione del prodotto. • Collegare bene lo spinotto delle cuffie all'ingresso corrispondente. • Verificare che l'apertura del microfono sul retro del pulsante Rispondi/Fine non sia ostruita. • Provare a chiamare un altro numero. • Provare con un altro dispositivo compatibile.
Il dispositivo non risponde ai comandi (pulsanti) del telecomando	• Collegare bene lo spinotto delle cuffie all'ingresso corrispondente. • Per le funzioni che prevedono pressioni successive: Variare la velocità delle pressioni.
Il dispositivo non risponde al telecomando	• È possibile che su alcuni prodotti Apple non tutti i controlli siano disponibili.
Le estremità auricolari si staccano	• Fissare bene i puntali agli auricolari e ai ganci degli ugelli.
Un'estremità auricolare è stata persa	• Contattare Bose® per sostituire i puntali.
L'audio è smorzato	• Pulire accuratamente i puntali e gli ugelli delle cuffie. • Scollegare le cuffie dalla sorgente audio, quindi ricollegarle assicurandosi che siano fissate saldamente. • Provare con un altro dispositivo audio.

Utilizzo delle cuffie

Pulizia

Queste cuffie potrebbero richiedere una pulizia periodica:

Puntali: Rimuovere i puntali dalle cuffie. Lavarli con un detergente delicato e acqua. Prima di riapplicarli alle cuffie, sciacquarli e asciugarli completamente.

Ugelli cuffie: Pulire con un bastoncino ovattato asciutto o qualcosa di simile. Non inserire nessuno strumento di pulizia nell'ugello.

Garanzia limitata

Le cuffie in-ear Bose® SoundSport sono coperte da garanzia limitata. I dettagli sulla garanzia limitata sono riportati sulla scheda di registrazione del prodotto inclusa nella confezione. Per istruzioni su come registrare la garanzia, consultare la scheda. La mancata registrazione non inciderà in alcun modo sui diritti previsti dalla garanzia limitata.

Le informazioni di garanzia fornite con questo prodotto non sono valide in Australia e Nuova Zelanda. Per i dettagli della garanzia in Australia e Nuova Zelanda, consultare il nostro sito web all'indirizzo www.bose.com.au/warranty o www.bose.co.nz/warranty.

Fontos biztonsági utasítások

Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és őrizze meg a későbbiekre.



VIGYÁZAT:

- **NE** használja a fülhallgatókat huzamosabb ideig magas hangerőn.
 - A halláskárosodás elkerülése érdekében a fülhallgatót a fül számára kellemes, mérsékelt hangerővel használja.
 - Halkítsa le az eszközt, mielőtt a fülére helyezné a fülhallgatókat, majd fokozatosan hangosítsa fel az eszközt, amíg el nem éri az Ön számára megfelelő hangerőt.
- **LEGYEN ÓVATOS**, és tartsa be a mobiltelefonok és fülhallgatók használatára vonatkozó jogszabályokat, ha a fülhallgatókat vezetés közben telefonáláshoz használja. Az ilyen eszközök vezetés közbeni használatát illetően egyes jogrendek korlátozásokat szabhatnak meg, például tilthatják a fülhallgatók mindkét fülön történő használatát.
- **NE** használja a fülhallgatókat semmilyen más célra vezetés közben.
- **ÜGYELJEN** a saját és mások biztonságára, ha a fülhallgatók használata közben egyéb, figyelmet igénylő tevékenységet is végez, például kerékpározik vagy forgalmas helyen, építési terület vagy vasúti sínek közelében sétál stb. Vegye le a fülhallgatókat, vagy állítsa be úgy a hangerőt, hogy meghallja a környező zajokat, ideértve a figyelmeztető és riasztójelzéseket is.
- **NE** csatlakoztassa a fülhallgatót mobiltelefon-adapter segítségével a repülőgépépülésekbe épített aljzathoz, mert ez személyi sérülést, például égést vagy anyagi kárt okozhat a túlmelegedés miatt.
- **AZONNAL** válassza le és távolítsa el a fülhallgatókat, ha melegeledést vagy hangkiesést tapasztal.
- **NE** engedje, hogy a fülhallgatók hosszabb ideig vízbe merüljenek, vagy vízzel érintkezzenek, és ne használja azokat vízi sportok (pl. úszás, vízisízés, szörfözés stb.) közben.
- **NE** helyezzen gyertyát vagy egyéb nyílt lánggal égő tárgyat a termékre vagy annak közelébe.



VIGYÁZAT:

A termék kis részeket tartalmaz, melyek fulladást okozhatnak. 3 éves kor alatti gyermekek számára nem alkalmas.



VIGYÁZAT:

A termék mágneses anyagot tartalmaz. Ha szeretné tudni, hogy a mágneses anyag befolyásolhatja-e az Ön beültetett orvosi eszközének működését, forduljon orvosához.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem egy megfelelő hulladékkezelő létesítményben kell leadni, ahol gondoskodnak a termék újrahasznosításáról.

A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás hozzájárul a természeti erőforrások, az emberi egészség és a környezet védelméhez. A feleslegessé vált termék kezelésével és újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzat hulladékkezeléssel megbízott szolgáltatójához, vagy ahhoz az üzlethez, ahol ezt a terméket vásárolta.



A termék az EU-irányelvek minden vonatkozó követelményének megfelel. A teljes megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a www.Bose.com/compliance címen.

Mérgező vagy veszélyes anyagok és vegyi elemek nevei a termékben						
Mérgező vagy veszélyes anyagok és elemek						
Alkatrész neve	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hat vegyértékű króm (Cr(VI))	Polibrominált bifenil (PBB)	Polibrominált difeniléter (PBDE)
NYÁK-ok	X	O	O	O	O	O
Fémrészek	X	O	O	O	O	O
Műanyag részek	O	O	O	O	O	O
Hangszórók	X	O	O	O	O	O
Kábelek	X	O	O	O	O	O

Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásainak megfelelően készült.

O: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész összes homogén anyaga a GB/T 26572 előírásaiban meghatározott határértéknél kisebb mennyiségben tartalmazza.

X: Azt jelzi, hogy az említett mérgező vagy veszélyes anyagot az alkatrész legalább egy homogén anyaga a GB/T 26572 korlátozó előírásait meghaladó mértékben tartalmazza.



©2015 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen kiadvány semmilyen része nem sokszorosítható, módosítható, terjeszthető, illetve nem használható fel semmilyen más módon.

A Bose® SoundSport® fülhallgató bemutatása	4
Jellemzők	4
A doboz tartalma	5
Csatlakoztatás az eszközhöz	6
A fülhallgatók használata az eszközzel	6
A fülhallgatók vezérlőelemei	6
Alapvető funkciók	7
Médialejátszási funkciók	7
A megfelelő illeszkedés fontossága	8
A fülbetétek cseréje	9
A hosszabbítókábel csatlakoztatása	9
A kényelem és a stabilitás beállítása	10
A ruhacsipesz használata	10
Egyetlen fülhallgató használata	10
Hibaelhárítás	11
Tisztítás	12
Korlátozott garancia	12

Az iPad, az iPhone és az iPod az Apple, Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az „iPhone” védjegy felhasználása az Aiphone K.K. engedélyével történt.

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad” azt jelenti, hogy az adott elektronikus tartozék kifejezetten az iPod, iPhone, illetve iPad eszközhöz való csatlakoztatásra készült, és a fejlesztő az Apple működési követelményeinek teljesítésére vonatkozó alkalmassági bizonyítvánnyal látta el. Az Apple nem vállal felelősséget jelen eszköz működésével, illetve a biztonsági és szabályozási normáknak való megfelelésével kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmét, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad eszközzel történő használata kedvezőtlen hatással lehet a vezeték nélküli működésre.

Feljegyzendő és megőrzendő adatok:

A gyári szám és a típusszám a garanciakártyán van feltüntetve.

Gyári szám _____

Típusszám _____

A vásárlás dátuma _____

A vásárlási bizonylatot tanácsos a jelen kezelési útmutató mellett tartani.

A fülhallgatók használata

A Bose® SoundSport® fülhallgató bemutatása


A Bose® SoundSport® fülhallgatók olyan telt, kiegyensúlyozott hangzást nyújtanak, amellyel a hagyományos sport fülhallgatók nem tudnak versenyre kelni.

Jellemzők

- A különleges TriPort® technológia biztosítja a mélyhangok természetes hangzását még magas hangerőn is.
- Ellenáll a verejtéknek és az időjárásnak.
- A szabadalmazott StayHear® fülbetétek alkalmazkodnak füle formájához, így kényelmetlen érzés nélkül a helyükön maradnak még hosszan tartó, intenzív mozgás közben is.
- A könnyű, tartós hordtok biztosítja a fülhallgatók tárolását és védelmét.
- A vezetékbe épített mikrofon és távvezérlő lehetővé teszi bizonyos iPod-, iPhone- és iPad-modellek vezérlését.
- Időtálló és tartós kialakítás.
- Több színben kapható, hogy kiválaszthassa a stílusához illőt.

A doboz tartalma

Óvatosan csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a következő összetevők meglétét:



Megjegyzés: A fülhallgatókra a közepes (szürke) StayHear® fülbetétek vannak feltéve.

A fülhallgatók használata

Csatlakoztatás az eszközhöz


Csatlakoztassa a fülhallgatókat az iPod-, az iPhone- vagy az iPad-eszköz szabványos, 3,5 mm-es fejhallgató-bemenetéhez.



A fülhallgatók használata az eszközzel

A Bose® SoundSport® fülhallgatók vezetékbe épített mikrofonnal és háromgombos távvezérlővel rendelkeznek.

A fülhallgatók vezérlőelemei



Alapvető funkciók

Hangosítás	Nyomja meg és engedje fel a + gombot.
Halkítás	Nyomja meg és engedje fel a - gombot.
Hívás fogadása	Ha bejövő hívása érkezik, nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot a hívás fogadásához.
Hívás befejezése	Nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot.
Bejövő hívás elutasítása	Nyomja le a Válasz/vége gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje fel.
Átkapcsolás a bejövő vagy tartott hívásra és az aktuális hívás tartása	Hívás közben egyszer nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot. Az első hívásra való átkapcsoláshoz újból nyomja meg és engedje fel a gombot.
Átkapcsolás a bejövő vagy tartott hívásra és az aktuális hívás befejezése	Hívás közben nyomja le a Válasz/vége gombot kb. 2 másodpercig, majd engedje fel.
A hangvezérlés használata	Tartsa nyomva a Válasz/vége gombot. A hangvezérléssel kapcsolatban további információkat a készülék felhasználói útmutatójában talál.

Médialejátszási funkciók

Zeneszám vagy videó lejátszása vagy szüneteltetése	Nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot
Ugrás előre	Kétszer egymás után gyorsan nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot.
Gyors előretekerés	Kétszer egymás után gyorsan nyomja meg a Válasz/vége gombot, és másodszor tartsa nyomva.
Ugrás hátra	Háromszor egymás után gyorsan nyomja meg és engedje fel a Válasz/vége gombot
Visszatekerés	Háromszor egymás után gyorsan nyomja meg a Válasz/vége gombot, és harmadszor tartsa nyomva.

A fülhallgatók használata

A megfelelő illeszkedés fontossága

Az optimális hangteljesítmény érdekében fontos, hogy a megfelelő méretű StayHear® fülbetétet használja. Válassza ki azt a méretet, amely a legkényelmesebben és a legjobban illeszkedik mindkét fülébe. A legjobban illeszkedő fülbetét kiválasztásához érdemes kipróbálni mindhárom méretet.

Megjegyzés: Az illeszkedés ellenőrzéséhez beszéljen hangosan. Ha a fülbetétek jól illeszkednek, mindkét fülével csak tompán hallja a saját hangját. Ellenkező esetben válasszon másik méretű fülbetétet.


Mindegyik fülbetéten található egy L vagy R jelzés. Ügyeljen arra, hogy a bal oldali fülbetétet (L) a bal oldali fülugóra, a jobb oldali fülbetétet (R) pedig a jobb oldali fülugóra helyezze rá.



Ellenőrizze, megfelelő méretű-e a fülbetét:

1. Helyezze a fülhallgatókat a fülébe úgy, hogy a fülbetétet a fülcsatorna nyílásához illeszti.
2. Fordítsa el hátrafelé a fülhallgatót, és a fülbetét szárnyát nyomja a fülkagyló ellencáp nevű része alá úgy, hogy jól rögzítse az eszközt.

A fülbetéteknek kellemetlen érzés nélkül, de stabilan kell a fülkagylóba illeszkedniük.



A fülbetétek cseréje

Válassza ki azt a fülbetéttípust és -méretet, amelyet a legkényelmesebbnek érez, és amely a legjobban illeszkedik a fülébe.


1. Finoman húzza le a fülugóról a felhelyezett fülbetét széleit, ügyelve arra, hogy el ne szakadjon a fülbetét.

FIGYELEM: Ne a szárnyánál fogva húzza a StayHear® fülbetétet, mert az megsérülhet.

2. Illessze az új fülbetét nyílását a fej, a kis bevágást pedig a fej kampója fölé.

Megjegyzés: A fülbetéteken L (bal) vagy R (jobb) betű jelzi, hogy melyik oldalra valók. Ügyeljen rá, hogy a bal StayHear® fülbetétet a bal fülugóra, a jobb StayHear® fülbetétet pedig a jobb fülugóra helyezze fel.

3. Nyomja rá a fülbetét alapját a fülugó alapjára, amíg úgy nem érzi, hogy stabilan rögzítette a fülbetétet.



A hosszabbítókábel csatlakoztatása

A hosszabbítókábel csatlakoztatásával hosszabb kábelre tehet szert a fülhallgatók és a mobilkészlet között.

1. Csatlakoztassa a hosszabbítókábel anyacsatlakozóját a fülhallgató kábeléhez.
2. A hosszabbítókábel másik végét csatlakoztassa az eszköz szabványos 3,5 mm fejhallgatóaljzatához.


A fülhallgatók használata

A kényelem és a stabilitás beállítása

Többféle módon is beállíthatja a fülhallgatókat, hogy azok még kényelmesebbek és stabilabbak legyenek. A szabályozócsúszka és a ruhacsipesz segítségével egyéni használati szokásaihoz szabhatja a fülhallgatót.

A ruhacsipesz használata

A ruhacsipesszel ruházatához erősítheti a kábelt, kényelmesebbé téve az eszköz használatát, megkönnyítve a kábel kezelését és stabilizálva azt. Ez hasznos lehet gyors mozgással járó tevékenységek közben vagy akkor, ha a fülhallgatót csak az egyik fülében használja.



Egyetlen fülhallgató használata

A Bose® SoundSport® fülhallgatót úgy is használhatja, hogy csak a jobb **(R)** fülugót helyezi a fülébe. Így fogadhatja a hívásokat, és hallhatja a környező hangokat is.

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémát tapasztal a fülhallgatók használata közben, próbálja ki az alábbi hibaelhárítási eljárásokat.

Probléma	Teendő
Nincs hang, vagy szakadozó hang	• Stabilan csatlakoztassa a fülhallgató dugóját a fejhallgatóaljzathoz. • Próbáljon ki egy másik hangeszközt.
Túl erősek a mélyhangok	• Kapcsolja ki a hangforrás hangkiemelési funkcióit.
A mikrofon nem veszi fel a hangot	• Győződjön meg róla, hogy kompatibilis eszközt használ. A termék dobozán tekintse meg a kompatibilis eszközök listáját. • Stabilan csatlakoztassa a fülhallgató dugóját a fejhallgatóaljzathoz. • Ellenőrizze, nincs-e letakarva a mikrofon nyílása a Válasz/vége gomb mögött. • Próbálkozzon még egy telefonhívással. • Próbáljon ki egy másik kompatibilis eszközt.
Az eszköz nem reagál távvezérlőn végzett gombnyomásokra	• Stabilan csatlakoztassa a fülhallgató dugóját a fejhallgatóaljzathoz. • Több gombnyomásos funkciók esetében: változtasson a gombnyomások sebességén.
Az eszköz nem reagál a távvezérlő jeleire	• Bizonyos Apple termékek esetén előfordulhat, hogy nem használható minden vezérlőelem.
A fülbetétekek leesnek	• Stabilan illessze rá a fülbetéteket a füldugóra és a fej kampójára.
Elveszett a fülbetét	• Pót fülbetétekért forduljon a Bose®-hoz.
A fülhallgatóból tompán szól a zene	• Tisztítsa meg minden szennyeződéstől és zsírtól a fülbetéteket és a fülhallgatófejeket. • Válassza le a fülhallgatókat a hangforrásról, majd csatlakoztassa újra, ügyelve a jó csatlakozásra. • Próbáljon ki egy másik hangeszközt.

A fülhallgatók használata

Tisztítás

A fülhallgatók időnként tisztítást igényelhetnek:

Fülbetétek: Vegye le a fülbetéteket a fülhallgatókról. Mossa le őket kímélő mosószerrel és vízzel. A fülbetéteket alaposan öblítse át és szárítsa meg, mielőtt visszateszi őket a fülhallgatókra.

Fülhallgatófejek: Csak puha, száraz pamutkendővel vagy hasonló ruhával törölje meg őket. Soha ne dugjon semmilyen tisztítóeszközt a fejbe.

Korlátozott garancia

A Bose® SoundSport fülhallgatókra korlátozott garancia érvényes. A korlátozott garancia részletes leírása megtalálható a dobozban lévő termékregisztrációs lapon. A regisztrálás lépéseit is ez a lap tartalmazza. A regisztráció elmulasztása nem befolyásolja a korlátozott garanciára való jogosultságát.

A termékhez mellékelte garanciális útmutatón szereplő feltételek Ausztráliában és Új-Zélandon nem érvényesek. Az Ausztráliában és Új-Zélandon érvényes garanciával kapcsolatos részletes tudnivalókért keresse fel weboldalunkat a www.bose.com.au/warranty vagy a www.bose.co.nz/warranty címen.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Les denne brukerveiledningen nøye, og oppbevar den for fremtidig referanse.



ADVARSLER:

- **IKKE** bruk hodetelefonene på høyt volum over en lengre periode.
 - Hvis du vil unngå hørselsskader, må du bruke hodetelefonene på et komfortabelt, moderat volumnivå.
 - Skru volumet ned på enheten før du plasserer hodetelefonene i ørene, og skru deretter volumet opp gradvis til et komfortabelt lyttenivå.
- **VÆR** forsiktig og følg gjeldende lovgivning med hensyn til bruk av mobiltelefon og hodetelefoner hvis du bruker hodetelefonene til telefonsamtaler når du kjører. Noen jurisdiksjoner pålegger konkrete begrensninger, for eksempel konfigurasjon med én øreplugg, på bruk av slike produkter under kjøring
- **IKKE** bruk hodetelefonene til andre formål når du kjører.
- **FOKUSER** på egen og andres sikkerhet hvis du bruker hodetelefonene når du holder på med andre aktiviteter som krever din oppmerksomhet, for eksempel når du sykler eller går i eller nær trafikk, byggeplasser eller jernbane og så videre. Ta av hodetelefonene eller juster volumet for å sikre at du kan høre lydene fra omgivelsene, herunder alarmer og varsel signaler.
- **IKKE** bruk adaptere for mobiltelefon tilkoblet hodetelefoner på setekontakter i fly siden dette kan fører til personlig skade, som brannskader eller skade på eiendeler, på grunn av overoppheting.
- **FJERN** hodetelefonene og koble fra umiddelbart hvis det oppstår en varmek følelse eller hørselstap.
- **IKKE** senk i eller utsett for vann i lengre perioder, eller bruk dem når du deltar i vannsport, som svømming, vannski, surfing og så videre.
- **IKKE** plasser kilder til bar ild, for eksempel tente stearinlys, på eller nær produktet.



ADVARSEL:

Inneholder små deler som kan medføre fare for kvelning, Ikke egnet for barn under 3 år.



ADVARSEL:

Dette produktet inneholder magnetisk materiale. Kontakt lege hvis du har spørsmål om dette kan påvirke drift av implantert medisinsk utstyr.



Dette symbolet betyr at produktet ikke må kasseres som husholdningsavfall, og at det skal leveres til en passende innsamlingsanlegg for gjenvinning. Riktig håndtering og gjenvinning bidrar til å beskytte naturressurser, helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om avhending og resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonstjenesten eller butikken der du kjøpte dette produktet.



Produktet overholder alle kravene i gjeldende EU-direktiver. Den fullstendige overholdelseserklæringen finner du på www.Bose.com/compliance

Navn på og innhold i giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler						
	Giftige eller skadelige stoffer eller bestanddeler					
Delenavn	Bly (Pb)	Kvikksølv (Hg)	Kadmium (Cd)	Heksavalent (CR(VI))	Polybromerte bifenyler (PBB)	Polybromerte difenyletere (PBDE)
PCBer	X	O	O	O	O	O
Metalldeler	X	O	O	O	O	O
Plastikkdeler	O	O	O	O	O	O
Høytalere	X	O	O	O	O	O
Kabler	X	O	O	O	O	O
Denne tabellen er klargjort i henhold til krav i SJ/T 11364.						
O: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i alle de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						
X: Angir at angitt giftig eller farlig stoff som finnes i minst én av de homogene materialene i denne delen, er under grensekravene i GB/T 26572.						

©2015 Bose Corporation. Ingen del av dette produktet kan reproduseres, endres, distribueres eller brukes på annen måte uten å ha innhentet skriftlig tillatelse på forhånd.

Om dine Bose® SoundSport® in-ear headphones	4
Funksjoner	4
Innhold i esken	5
Koble til enheten	6
Bruke hodetelefonene med enheten	6
Hodetelefonkontroller	6
Grunnleggende funksjoner	7
Funksjoner for medieavspilling	7
Viktigheten av riktig passform	8
Bytte øretupper	9
Koble til forlengelseskabelen	9
Justere for komfort og stabilitet	10
Bruke klesklypen	10
Bruke én øreplugg	10
Feilsøking	11
Rengjøring	12
Begrenset garanti	12

iPad, iPhone og iPod er registrerte varemerker for Apple Inc. i USA og andre land. Varemerket iPhone brukes med lisens fra Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyr at et elektronisk tilbehør er spesialdesignet for tilkobling til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad og er sertifisert av utvikleren i henhold til Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for hvordan enheten fungerer eller hvordan den overholder sikkerhetsbestemmelser og andre standarder. Vær oppmerksom på at bruk av tilbehøret med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke ytelsen til den trådløse tilkoplingen.

Fyll ut og oppbevar for senere bruk:

Du finner serie- og modellnummer på garantikortet.

Serienummer _____

Modellnummer _____

Kjøpsdato _____

Vi foreslår at du oppbevarer kvitteringen sammen med brukerveiledningen.

Bruke hodetelefonene

Om dine Bose® SoundSport® in-ear headphones


Bose® SoundSport® in-ear headphones gir en komplett og balansert lyd som vanlige sportsørepropper ikke kan gi deg.

Funksjoner

- Eksklusiv TriPort®-teknologi gjengir svake lyder naturligtoner selv ved høyt volum.
- Svette- og værbestandig.
- StayHear®-proppene passer til øreformen din, slik at de holder seg komfortabelt på plass selv under de lengste og tøffeste treningsøktene.
- Lett og holdbar bæreveske som oppbevarer og beskytter hodetelefonene.
- Mikrofon og fjernkontroll på ledningen som gir deg kontroll over utvalgte iPod-, iPhone- og iPad-modeller.
- Utviklet og testet for kvalitet som varer.
- Tilgjengelige i forskjellige farger slik at du finner noen som passer til stilen din.

Innhold i esken

Pakke esken forsiktig ut, og kontroller at følgende deler følger med:



Merk: Hodetelefonene leveres med monterte mellomstore (grå) StayHear®-propper.

Bruke hodetelefonene

Koble til enheten


Koble hodetelefonene til den standard 3,5 mm hodetelefonkontakten på din iPod, iPhone, eller iPad.



Bruke hodetelefonene med enheten

Bose® SoundSport® in-ear headphones leveres med mikrofon på ledningen og fjernkontroll med tre knapper.

Hodetelefonkontroller



Grunnleggende funksjoner

Øke volumet	Trykk og slipp +-knappen.
Redusere volumet	Trykk og slipp --knappen.
Motta en samtale	Når du mottar en innkommende samtale, trykker og slipper du Svar/avslutt-knappen for å svare.
Avslutte en samtale	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen.
Avvise en innkommende samtale	Trykk og hold Svar/avslutt-knappen i ca. to sekunder før du slipper den.
Bytte til en innkommende eller ventende samtale og sette gjeldende samtale på vent	Når du er i en samtale, trykker og slipper du Svar/avslutt-knappen én gang. Trykk og slipp på nytt for å gå tilbake til den første samtalen.
Bytte til en innkommende eller ventende samtale og avslutte gjeldende samtale	Når du er i en samtale, trykker og holder du Svar/avslutt-knappen i ca. to sekunder før du slipper den.
Bruke talekontroll	Trykk og hold Svar/avslutt-knappen. Hvis du vil ha mer informasjon om talekontroll, kan du se brukerveiledningen for enheten.

Funksjoner for medieavspilling

Spille av eller pause en sang eller video	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen.
Hopp frem	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen hurtig to ganger.
Hurtig bakover	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen hurtig to ganger og holde det andre trykket.
Hopp tilbake	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen hurtig tre ganger.
Spole bakover	Trykk og slipp Svar/avslutt-knappen hurtig tre ganger og holde det tredje trykket.

Bruke hodetelefonene

Viktigheten av riktig passform

Det er viktig å velge riktig størrelse på StayHear®-tuppen for best mulig lydgjengivelse. Velg størrelsen som er mest komfortabel og passer best i hvert øre. Det kan hende du må prøve alle tre størrelsene for å avgjøre hvilken som passer best.

Merk: Du prøver passformen ved å snakke høyt. Din stemme skal høres dempet i begge ørene. Hvis ikke, velg en annen tuppstørrelse.


Hver tupp er merket med L eller R. Pass på at du fester venstre tupp (L) til venstre øreplugg og høyre tupp (R) til høyre øreplugg.



Gjør følgende for å avgjøre om tuppen har riktig størrelse:

1. Sett hodetelefonen inn i øret, slik at tuppen hviler forsiktig i åpningen av ørekanalen.
2. Vipp hodetelefonen tilbake, og press tuppkanten under ørekanten til den sitter godt fast.

Tuppen skal passe komfortabelt og sikkert i øret.



Bytte øretupper

Velg type og størrelse ørepluggtupper som gir best komfort og passform.


1. Løsne forsiktig kantene av den festede tuppen fra ørepluggen, og vær forsiktig slik at tuppen ikke rives.

Forsiktig: Ikke dra i StayHear®-tuppkanten for å unngå skade.

2. Plasser åpningen av den nye tuppen over munnstykket og den lille åpningen over munnstykkekekroken.

Merk: Hver tupp er merket med **L** eller **R** for å angi hvilken øreplugg den er til. Pass på at du fester venstre StayHear®-tupp til venstre øreplugg og høyre StayHear®-tupp til høyre øreplugg.

3. Plasser enden av tuppen forsiktig ned rundt enden av ørepluggen til tuppen sitter godt fast.



Koble til forlengelseskabelen

Koble til forlengelseskabelen for å få ekstra kabellengde mellom hodetelefonene og den mobile enheten.

1. Koble den hunnenden av forlengelseskabelen til hodetelefonkabelen.
2. Koble den andre enden av forlengelseskabelen til den 3,5 mm hodetelefonkontakten på enheten.


Bruke hodetelefonene

Justere for komfort og stabilitet

Du kan justere hodetelefonene for ekstra komfort og stabilitet på flere måter. Du kan tilpasse hvordan du bruker hodetelefonene med glidejusteringen og klesklypen.

Bruke klesklypen

Bruk klesklype til å feste kabelen til klærne, for enkelhets skyld, stabilitet og for å holde orden på kabelen. Dette kan være nyttig ved aktiviteter med mye bevegelse eller når du bruker hodetelefonene med bare én øreplugg.



Bruke én øreplugg

Bose® SoundSport® in-ear headphones kan brukes med bare den høyre (**R**) ørepluggen i øret. Dette lar deg motta samtaler og fremdeles høre lydene fra omgivelsene.

Feilsøking

Hvis du har problemer med å bruke hodetelefonene, kan du prøve å følge instruksjonene for feilsøking:

Problem	Gjør dette
Ingen eller uregelmessig lyd	• Koble hodetelefonpluggen godt til hodetelefonkontakten. • Prøv en annen lydenhet.
For mye bass	• Deaktiver alle funksjoner for lydforbedring på lydkilden.
Mikrofonen registrerer ikke lyd	• Pass på at du bruker en kompatibel enhet. Se listen over kompatible enheter på produktesken. • Koble hodetelefonpluggen godt til hodetelefonkontakten. • Pass på at mikrofonåpningen på baksiden av knappen for å besvare/avslutte ikke er blokkert. • Prøv en ny telefonsamtale. • Prøv en annen kompatibel enhet.
Enheten reagerer ikke når du trykker på fjernkontrollen (knapp)	• Koble hodetelefonpluggen godt til hodetelefonkontakten. • For flertrykksfunksjoner: Varier hastigheten på trykkene.
Enheten reagerer ikke på fjernkontrollen	• Full kontroll er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte Apple-produkter.
Øretuppene faller av	• Feste øretuppene godt til ørepluggen og munnstykkeketten.
Mistet øretupp	• Kontakt Bose® for reservetupper.
Lyden er dempet fra ørepluggen	• Fjerne rusk eller voks fra øretuppene og hodetelefonmunnstykkene. • Koble hodetelefonen fra lydkilden, og plugg deretter inn på nytt. Pass på at de er godt tilkoblet. • Prøv en annen lydenhet.

Bruke hodetelefonene

Rengjøring

Hodetelefonene bør rengjøres regelmessig:

Øretupper: Fjern øretuppene fra hodetelefonene. Vask dem med et mildt rengjøringsmiddel og vann. Pass på at du skyller og tørker dem grundig før du monterer dem på hodetelefonene.

Munnstykker for hodetelefon: Rengjør bare med en tørr, myk bomullspinne eller tilsvarende. Stikk aldri inn rengjøringsverktøy i munnstykket.

Begrenset garanti

Bose® SoundSport® in-ear headphones er dekket av en begrenset garanti. Du finner nærmere informasjon om den begrensede garantien på registreringskortet for produktet i emballasjen. Se kortet for instruksjoner om hvordan du registrerer produktet. Hvis du ikke registrerer produktet, påvirker det ikke den begrensede garantirettigheten.

Garantiinformasjonen for dette produktet gjelder ikke i Australia og New Zealand. Se nettstedet vårt på www.bose.com.au/warranty eller www.bose.co.nz/warranty for informasjon om garantien i Australia og New Zealand.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać ten podręcznik użytkownika i zachować go w celu użycia w przyszłości.



OSTRZEŻENIA:

- **NIE WOLNO** korzystać ze słuchawek przy wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.
 - Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, ze słuchawek należy korzystać przy komfortowym, średnim poziomie głośności.
 - Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć poziom ich głośności, a następnie stopniowo zwiększać go do momentu osiągnięcia poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- **NALEŻY** zachować ostrożność i zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych i słuchawek, jeżeli słuchawki są używane do wykonywania rozmów telefonicznych podczas prowadzenia pojazdów. W niektórych krajach/regionach obowiązują określone ograniczenia dotyczące używania takich produktów podczas prowadzenia pojazdów, na przykład konieczność korzystania z jednej słuchawki.
- **NIE WOLNO** używać słuchawek do innego celu podczas prowadzenia pojazdów.
- **NALEŻY** zwracać uwagę na bezpieczeństwo własne oraz innych osób, jeżeli słuchawki są używane podczas wykonywania czynności wymagających uwagi (np. jazda na rowerze lub spacer w pobliżu lokalizacji o dużym natężeniu ruchu samochodowego, placu budowy lub linii kolejowej). Należy zdjąć słuchawki lub dostosować głośność do poziomu umożliwiającego usłyszenie dźwięków dochodzących z zewnątrz, takich jak alarmy i sygnały ostrzegawcze.
- **NIE WOLNO** korzystać z adapterów dla telefonów komórkowych w celu podłączenia słuchawek do gniazda w fotelu samolotu, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała takie jak poparzenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane przegrzaniem.
- W przypadku uczucia wzrostu temperatury lub utraty dźwięku należy **NATYCHMIAST** zdjąć i odłączyć słuchawki.
- **NIE WOLNO** zanurzać urządzenia w wodzie, narażać go na działanie wody przez dłuższy czas ani użytkować podczas uprawiania sportów wodnych, takich jak pływanie, narciarstwo wodne, surfing itp.
- **NIE NALEŻY** na urządzeniu lub w jego pobliżu umieszczać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.



OSTRZEŻENIE:

Produkt zawiera małe części mogące spowodować zadławienie się. Nie jest on odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.



OSTRZEŻENIE:

Produkt zawiera elementy magnetyczne. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych należy skonsultować z lekarzem.



Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Właściwy sposób utylizacji i recyklingu pomaga chronić zasoby naturalne, ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji i recyklingu tego produktu, skontaktuj się z samorządem lokalnym, z zakładem utylizacji odpadów albo ze sklepem, w którym produkt został nabyty.



Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymogami dyrektyw UE. Pełna treść Deklaracji zgodności jest dostępna w witrynie www.Bose.com/compliance

Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków						
	Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki					
Nazwa	Ołów (Pb)	Rtęć (Hg)	Kadm (Cd)	Sześciowartościowy chrom (Cr(VI))	Polibromowany bifenyl (PBB)	Polibromowany difenyleoeter (PBDE)
Polichlorowane bifenyle (PCB)	X	O	O	O	O	O
Części metalowe	X	O	O	O	O	O
Części z tworzyw szt.	O	O	O	O	O	O
Głośniki	X	O	O	O	O	O
Kable	X	O	O	O	O	O
Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami SJ/T 11364.						
O: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta we wszystkich homogenicznych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.						
X: Wskazuje, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, która jest zawarta w co najmniej jednym z homogenicznych materiałów użytych dla tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572.						



©2015 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

Słuchawki douszne Bose® SoundSport®	4
Cechy	4
Zawartość pakietu dystrybucyjnego	5
Podłączenie do urządzenia	6
Używanie słuchawek z urządzeniem.....	6
Elementy sterujące słuchawkami.....	6
Podstawowe funkcje	7
Funkcje odtwarzania multimedialnych.....	7
Znaczenie właściwego dopasowania.....	8
Wymiana końcówek	9
Podłączanie przedłużacza.....	9
Regulacja w celu zapewnienia wygody użytkownika i stabilności.....	10
Korzystanie z klipsa na ubranie.....	10
Korzystanie z jednej słuchawki	10
Rozwiązywanie problemów	11
Czyszczenie	12
Ograniczona gwarancja	12

iPad, iPhone oraz iPod są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak towarowy „iPhone” jest używany na podstawie licencji firmy Apple K.K.

Termin „Made for iPod”, „Made for iPhone” i „Made for iPad” oznacza, że dane urządzenie elektroniczne zaprojektowano specjalnie pod kątem odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub tabletu iPad i ma ono certyfikat dewelopera potwierdzający spełnienie standardów firmy Apple w zakresie działania. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie niniejszego urządzenia ani jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i standardami prawnymi. Użycie tego akcesorium z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może wpływać na komunikację bezprzewodową.

Prosimy wpisać i zachować następujące informacje:

Numer seryjny i numer modelu można znaleźć na karcie gwarancyjnej.

Numer seryjny _____

Numer modelu _____

Data zakupu _____

Zalecamy przechowywanie paragonu sprzedaży wraz z instrukcją obsługi.

Korzystanie ze słuchawek

Słuchawki douszne Bose® SoundSport®


Słuchawki douszne Bose® SoundSport® oferują pełne i zrównoważone brzmienie, nieporównywalnie wyższej jakości niż konwencjonalne sportowe słuchawki douszne.

Cechy

- Unikalna technologia TriPort® zapewnia naturalnie brzmiące niskie częstotliwości, nawet przy większej głośności.
- Odporność na działanie potu i warunków pogodowych.
- Opatentowane końcówki StayHear® dopasowują się do kształtu Twoich uszu, więc są wygodne i pozostają na miejscu nawet podczas długich i dynamicznych ćwiczeń.
- Lekki i wytrzymały pokrowiec służący do przechowywania i ochrony słuchawek.
- Wbudowany mikrofon i pilot zdalnego sterowania zapewnia możliwość sterowania wybranymi modelami urządzeń iPod i iPhone i iPad.
- Zaprojektowane i przetestowane pod kątem jakości i trwałości.
- Dostępne w różnych kolorach, aby dopasować się do Twojego stylu.

Zawartość pakietu dystrybucyjnego

Ostrożnie rozpakuj opakowanie i upewnij się, że zawiera elementy przedstawione poniżej:




Uwaga: Słuchawki są dostarczane z założonymi średnimi (szarymi) końcówkami StayHear®

Korzystanie ze słuchawek

Podłączenie do urządzenia


Podłącz słuchawki do standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm w urządzeniu iPod, iPhone lub iPad.



Używanie słuchawek z urządzeniem

Słuchawki douszne Bose® SoundSport® są dostarczane z wbudowanym mikrofonem i pilotem zdalnego sterowania z trzema przyciskami.

Elementy sterujące słuchawek



Podstawowe funkcje

Zwiększanie głośności	Naciśnij i zwolnij przycisk +.
Zmniejszanie głośności	Naciśnij i puść przycisk -.
Odebranie połączenia	Po nadejściu połączenia naciśnij przycisk odbierania/zakończenia, aby je odebrać.
Zakończenie połączenia	Naciśnij i zwolnij przycisk odbierania/zakończenia połączenia.
Odrzucanie połączenia przychodzącego	Naciśnij przycisk odbierania/zakończenia i przytrzymaj go przez około dwie sekundy, po czym puść.
Przełączanie pomiędzy połączeniem przychodzącym i oczekującym oraz zawieszanie bieżącej rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij raz przycisk odbierania/zakończenia. Naciśnij i puść przycisk ponownie, aby przełączyć się na pierwszą rozmowę.
Przełączanie pomiędzy połączeniem przychodzącym i oczekującym oraz kończenie bieżącej rozmowy	Podczas rozmowy naciśnij i przytrzymaj przez około dwie sekundy przycisk odbierania/zakończenia, a następnie go zwolnij.
Używanie sterowania głosem	Naciśnij i przytrzymaj przycisk odbierania/zakończenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sterowania głosem, należy skorzystać z Instrukcji obsługi urządzenia.

Funkcje odtwarzania multimedialnych

Odtwarzanie lub wstrzymywanie odtwarzania utworu lub wideo	Naciśnij i zwolnij przycisk odbierania/zakończenia połączenia.
Przejsie do przodu	Szybko dwukrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.
Szybkie przewijanie do przodu	Szybko dwukrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia, przytrzymując drugie naciśnięcie.
Przejsie do tyłu	Szybko trzykrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia.
Szybkie przewijanie wstecz	Szybko trzykrotnie naciśnij i puść przycisk odbierania/zakończenia, przytrzymując trzecie naciśnięcie.


Korzystanie ze słuchawek

Znaczenie właściwego dopasowania

Dla optymalnego odtwarzania dźwięku ważne jest, aby wybrać końcówki StayHear® o odpowiedniej wielkości. Wybierając ich rozmiar trzeba zwrócić uwagę na wygodę i dopasowanie w każdym uchu. Aby zdecydować, które najlepiej pasują, można przymierzyć każdy z trzech rozmiarów.

Uwaga: Aby sprawdzić, czy pasują, należy spróbować głośno mówić. Twój głos powinien być przytłumiony w obu uszach. Jeśli tak nie jest, przymierz inny rozmiar końcówek.


Każda końcówka oznaczona jest literą L lub R. Upewnij się, że umieszczasz lewą końcówkę (L) w lewym uchu, a prawą końcówkę (R) w prawym uchu.



Określanie prawidłowego rozmiaru końcówki:

1. Włóż słuchawkę do ucha, tak, aby końcówka delikatnie opierała się na ujściu kanału słuchowego.
2. Odchyl słuchawkę do tyłu i naciśnij wypustkę pod wypukłością ucha, aż do zamocowania.

Kończówka powinna być dopasowana wygodnie, ale dokładnie do muszli ucha.



Wymiana końcówek

Wybierz typ i rozmiar końcówki, który zapewnia największy komfort i najlepsze dopasowanie.


1. Delikatnie zsuń brzegi końcówki ze słuchawki, uważając aby jej nie rozerwać.

Przestroga: Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy ciągnąć za wypustkę końcówki StayHear®

2. Ustaw otwór nowej końcówki nad słuchawką, a mały rowek nad zaczepem.

Uwaga: Każda końcówka jest oznaczona literą **L** lub **R** określającą, dla której słuchawki jest przeznaczona. Lewą końcówkę StayHear® należy przymocować do lewej słuchawki, a prawą końcówkę StayHear® do prawej słuchawki.

3. Załóż podstawę końcówki wokół podstawy słuchawki, aż do zamocowania końcówki.



Podłączanie przedłużacza

Podłącz przedłużacz, by uzyskać dodatkową długość kabla między słuchawkami a urządzeniem przenośnym.

1. Podłącz żeński koniec przedłużacza do kabla słuchawek.
2. Podłącz drugi koniec przedłużacza do standardowego gniazda słuchawkowego 3,5 mm w Twoim urządzeniu.


Korzystanie ze słuchawek

Regulacja w celu zapewnienia wygody użytkowania i stabilności

Ustawienie słuchawek można zmienić na kilka sposobów, aby zapewnić komfort i stabilność. Można dostosować sposób noszenia słuchawek przy użyciu suwaka regulacyjnego i klipsa mocującego do odzieży.

Korzystanie z klipsa na ubranie

Klips na ubranie umożliwia przymocowanie kabla do ubrania, co zapewnia wygodę użytkowania i stabilność. Jest to pomocne podczas aktywności fizycznej lub w przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki.



Korzystanie z jednej słuchawki

Słuchawki douszne Bose® SoundSport® mogą być używane po włożeniu do ucha tylko prawej (R) słuchawki. Umożliwia to odbieranie połączeń, a jednocześnie słyszenie dźwięków otoczenia.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów dotyczących korzystania ze słuchawek należy skorzystać z poniższych instrukcji.

Problem	Zalecane czynności
Brak dźwięku/dźwięk przerywany	• Pewnie podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawek. • Użyj innego urządzenia audio.
Nadmierna ilość tonów niskich	• Wyłącz funkcje udoskonalenia dźwięku w źródle dźwięku.
Mikrofon nie odbiera dźwięku	• Upewnij się, że używasz zgodnego urządzenia. Zapoznaj się z dołączoną do opakowania listą zgodnych urządzeń. • Pewnie podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawek. • Sprawdź, czy otwór mikrofonu z tyłu przycisku odbierania/zakończenia nie jest zablokowany. • Wykonaj inne połączenie. • Użyj innego zgodnego urządzenia.
Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie (przycisku) pilota zdalnego sterowania	• Pewnie podłącz wtyczkę słuchawek do gniazda słuchawek. • Wielokrotne naciskanie przycisków: Zmień szybkość naciskania.
System nie reaguje na naciskanie przycisków pilota zdalnego sterowania	• W przypadku niektórych produktów firmy Apple pełne funkcje sterowania mogą nie być dostępne.
Wypadanie końcówek	• Sprawdź, czy końcówki są dokładnie przymocowane do słuchawki i zaczepu.
Zagubienie końcówki	• Aby uzyskać końcówki zamienne, skontaktuj się z firmą Bose®.
Dźwięk ze słuchawki jest przytłumiony	• Usuń zanieczyszczenia lub wosk nagromadzony w końcówkach i wnętrzu słuchawek. • Odłącz słuchawki od źródła dźwięku, a następnie dokładnie podłącz je ponownie. • Użyj innego urządzenia audio.

Korzystanie ze słuchawek

Czyszczenie

Słuchawki mogą wymagać okresowego czyszczenia:

Końcówki: Zdejmij końcówki ze słuchawek. Umyj je łagodnym detergentem i wodą. Przed ponownym założeniem ich na słuchawki opłucz i wysusz je dokładnie.

Wnętrze słuchawek: Wyczyść je, używając tylko suchego i miękkiego bawełnianego wacika lub odpowiednika. Nie wkładaj żadnego przedmiotu do czyszczenia do wnętrza słuchawki.

Ograniczona gwarancja

Słuchawki douszne Bose® SoundSport są objęte ograniczoną gwarancją. Szczegółowe informacje dotyczące ograniczonej gwarancji są dostępne na dostarczonej razem z urządzeniem karcie rejestracyjnej produktu. Na karcie można również znaleźć informacje dotyczące sposobu rejestracji. Rezygnacja z rejestracji nie ma wpływu na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

Dołączone do tego produktu informacje na temat gwarancji nie dotyczą Australii i Nowej Zelandii. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji w Australii i Nowej Zelandii można znaleźć pod adresem www.bose.com.au/warranty lub www.bose.co.nz/warranty.

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för att kunna referera till den i framtiden.



VARNINGAR!

- Använd **INTE** hörlurarna med hög volym under en längre tidsperiod.
 - Du undviker hörselskador om du använder hörlurarna med en bekväm och moderat ljudnivå.
 - Skruva ned volymen på enheten innan du sätter på dig hörlurarna. Skruva sedan upp volymen stegvis tills den når en behaglig nivå.
- Var försiktig** och efterlev gällande lagar beträffande användning av mobiltelefoner och hörlurar om du använder hörlurarna för telefonsamtal i samband med bilkörning. I viss lagstiftning finns det vissa begränsningar för exempelvis användning av den ena hörluren när du framför ett fordon.
- Använd **INTE** hörlurarna i samband med bilkörning.
- Fokusera** på din och andras säkerhet om du använder hörlurarna när du ägnar dig åt aktiviteter som kräver hela din uppmärksamhet, till exempel när du cyklar eller promenerar i trafiken, vid en byggarbetsplats eller vid en järnväg. Ta av dig hörlurarna så att du hör ljudet från omgivningen, inklusive larm och varningssignaler.
- Använd **INTE** adaptrar avsedda för mobiltelefoner för att ansluta hörlurarna till kontakter vid flygplansstolar, eftersom du då riskerar att drabbas av brännskador eller att föremål skadas på grund av överhettning.
- Ta bort** hörlurarna och koppla från dem omedelbart om de känns varma eller om ljudet försvinner.
- Sänk **INTE** ned hörlurarna i vatten och utsätt dem inte för vata under någon längre period och ha dem inte på dig när du utövar vattensporter, till exempel när du simmar, åker vattenskidor eller surfar.
- Placera **INTE** tända ljus eller andra föremål med öppna lågor på eller i närheten av produkten.



VARNING!

Produkten innehåller små delar som kan orsaka kvävning. Inte lämplig för barn under 3 år.



VARNING!

Produkten innehåller magnetiska material. Kontakta din läkare om du har frågor om huruvida produkten kan påverka implantat av medicinsk enhet.



Den här symbolen betyder att produkten inte ska kastas med hushållssoporna utan återvinnas i enlighet med lokala bestämmelser. Rätt deponering och återvinning hjälper till att skydda våra naturresurser, vår hälsa och miljö. Mer information om deponering och återvinning av produkten får du om du kontaktar lokala myndigheter, deponeringscentraler eller affären där du köpte produkten.



Den här produkten uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga EU-direktiv. En komplett försäkran om överensstämmelse finns på www.bose.com/compliance

Namn och innehåll på giftiga eller farliga ämnen eller delar						
Giftiga eller farliga ämnen och delar						
Namn	Bly (Pb)	Kvikksilver (Hg)	Kadmium (Cd)	Sexvärt krom (CR(VI))	Polyklorerad bifenyyl (PBB)	Polyklorerad diphenyl ether (PBDE)
PCB:er	X	O	O	O	O	O
Metall	X	O	O	O	O	O
Plast	O	O	O	O	O	O
Högtalare	X	O	O	O	O	O
Kablar	X	O	O	O	O	O
Den här tabellen är uppställd i enlighet med bestämmelserna i SJ/T 11364. O: Anger att angivna farliga ämne som ingår i alla homogena material i den här artikeln ligger under gränsvärdena uppställda i GB/T 26572. X: Anger att angivna farliga ämne som ingår i minst ett av de homogena materialen i den här artikeln ligger över gränsvärdena uppställda i GB/T 26572.						

Om dina Bose® SoundSport® in-ear-hörlurar	4
Funktioner	4
Innehållet i kartongen	5
Ansluta till enheten	6
Använda hörlurarna med din enhet.....	6
Kontroller på hörlurarna	6
Basfunktioner.....	7
Funktioner för medieuppspelning	7
Vikten av god passform	8
Byta öronproppar	9
Sätta fast förlängningskabeln.....	9
Anpassa så att de sitter bekvämt och stabilt	10
Använda klämman	10
Använda den ena hörluren	10
Felsökning.....	11
Rengöring.....	12
Begränsad garanti.....	12

iPad, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och i andra länder. Varumärket "iPhone" används med en licens från Aiphone K.K.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats speciellt för en iPod-, iPhone- eller iPad-enhet och att det certifierats av producenten samt att det uppfyller Apple-standarder. Apple ansvarar inte för hur enheten fungerar eller att den är kompatibel med säkerhetsstandarder och andra standarder. Vänligen observera att användning av detta tillbehör tillsammans med en iPod, iPhone eller iPad kan påverka trådlösa överföringar.

Fyll i uppgifterna och håll reda på var du förvarar dem:

Serie- och modellnummer finns på garantikortet.

Serienummer _____

Modellnummer _____

Inköpsdatum _____

Vi föreslår att du sparar inköpskvittot tillsammans med den här bruksanvisningen.

Använda hörlurarna

Om dina Bose® SoundSport® in-ear-hörlurar


Bose® SoundSport® in-ear-hörlurarna erbjuder ett komplett balanserat ljud som traditionella sporthörlurar inte kan matcha.

Funktioner

- Den exklusiva TriPort®-tekniken ger ett naturligt ljud, även vid höga volymer.
- Svett- och vädertålig.
- Egenutvecklade StayHear®-proppar som är anpassade till örat och som sitter kvar bekvämt även under långa och påfrestande övningspass.
- Väska i lätt och tåligt material för skydd och förvaring av hörlurarna.
- Mikrofon och fjärrkontroll på sladden för iPod-, iPhone- och iPad-modeller.
- Utvecklade och testade för bestående kvalitet och hållbarhet.
- Tillgänglig i olika färger för att passa din stil.

Innehållet i kartongen

Packa försiktigt upp kartongen och kontrollera att följande delar finns med:



Obs! Hörlurarna levereras med de mellanstora (grå) StayHear®-propparna fastsatta.

Använda hörlurarna

Ansluta till enheten


Anslut hörlurarna till en vanlig 3,5 mm kontakt på din iPod, iPhone eller iPad.



Använda hörlurarna med din enhet

Bose® SoundTrue® in-ear-hörlurar levereras med en integrerad mikrofon och fjärrkontroll med tre knappar på sladden.

Kontroller på hörlurarna



Basfunktioner

Höja volymen	Tryck och släpp upp +-knappen.
Minska volymen	Tryck och släpp upp - -knappen.
Besvara ett samtal	När någon ringer till dig trycker du på svara/avsluta-knappen för att besvara samtalet.
Avsluta ett samtal	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Avvisa inkommande samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder innan du släpper upp den.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal, och parkera aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen en gång under pågående samtal. Tryck och släpp upp en gång för att gå tillbaka till föregående samtal.
Växla till ett inkommande samtal eller ett parkerat samtal och avsluta aktuellt samtal	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen i cirka två sekunder i pågående samtal innan du släpper upp knappen.
Använda röstkommandon	Tryck och håll ned svara/avsluta-knappen. Mer information om röstkommandon finns i bruksanvisningen för din enhet.

Funktioner för medieuppspelning

Spela upp eller pausa ljudspår och video	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen.
Hoppa framåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen två gånger snabbt.
Snabbspola framåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen två gånger snabbt men håll kvar den andra tryckningen.
Hoppa bakåt	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen tre gånger snabbt.
Spola tillbaka	Tryck och släpp upp svara/avsluta-knappen tre gånger snabbt men håll kvar den tredje tryckningen.

Använda hörlurarna

Vikten av god passform

För att få optimal ljudprestanda är det viktigt att välja rätt storlek för StayHear®-proppen. Välj den storlek som ger bästa komfort och som passar bäst i örat. Du kanske behöver prova alla tre storlekarna för att kunna bestämma vilken som passar bäst.

Obs! Du kan testa hur de passar genom att tala högt. Ljudet ska upplevas dämpat i båda öronen. Om inte, ska du välja en annan storlek.


Varje öronpropp är märkt med antingen ett L eller ett R. Sätt in öronproppen märkt med L i det vänstra örat och den märkt med R i det högra.



Så här kontrollerar du att öronproppen har rätt storlek:

1. För in hörluren i örat så att öronproppen vilar lätt i öronkanalen.
2. Luta hörluren bakåt och tryck fast vingen under kanten vid ytterörat så att den sitter fast.

Propparna ska sitta bekvämt och säkert i örat.



Byta öronproppar

Välj den öronpropp som ger bäst komfort och passning.


1. Ta försiktigt av öronproppen från spetsen på hörluren, men var försiktig så att inte spetsen får några märken.

Tänk på: Du förhindrar skador genom att inte dra i StayHear®-vingen.

2. Placera hålet på den nya öronproppen över munstycket och den lilla delen över haken.

Obs! Varje öronpropp har antingen ett **L** (vänster) eller ett **R** (höger) för att ange om den är avsedd för vänster eller höger öra. Använd den vänstra StayHear®-proppen i det vänstra örat och den högra StayHear®-proppen i det högra.

3. Tryck ner öronproppen runt basen på hörluren så att den sitter fast.



Sätta fast förlängningskabeln

Sätt fast förlängningskabeln för att öka avståndet mellan hörlurarna och den mobila enheten.

1. Anslut honkontakten på förlängningskabeln till hörlurskabeln.
2. Anslut den andra änden av förlängningskabeln till en vanlig 3,5 mm hörlurskontakt på enheten.


Använda hörlurarna

Anpassa så att de sitter bekvämt och stabilt

Det finns flera olika sätt att justera hörlurarna så att de sitter bekvämt och stabilt. Med hjälp av glidremmen och klämman kan du anpassa hur du vill bära hörlurarna.

Använda klämman

Använd klämman för att sätta fast sladden i dina kläder så att det blir enklare att hantera sladden. Detta kan vara till stor hjälp om du rör dig mycket eller när du bara använder den ena hörluren.



Använda den ena hörluren

Du kan även välja att endast använda den högra (**R**) Bose® SoundSport® in-ear-hörluren. Detta gör det enklare att ta emot samtal och samtidigt höra ljudet omkring dig.

Felsökning

Se felsökningsanvisningarna i tabellen nedan om du får problem med att använda hörlurarna.

Problem	Åtgärd
Inget ljud/ljudbortfall	- Kontrollera att hörlurskontakten är helt intryckt i hörlursingången. - Försök med en annan ljudkälla.
För kraftig bas	Stäng av eventuella ljudförstärkningsfunktioner på ljudkällan.
Mikrofonen tar inte upp något ljud	- Kontrollera att du använder en kompatibel enhet. Se listan över kompatibla enheter som finns i förpackningen. - Kontrollera att hörlurskontakten är helt intryckt i hörlursingången. - Kontrollera att mikrofonöppningen på baksidan av svara/avsluta-knappen inte är blockerad. - Prova med att göra ytterligare ett telefonsamtal. - Prova med en annan kompatibel enhet.
Enheten svarar inte när fjärrkontrollsknapparna trycks ned	- Kontrollera att hörlurskontakten är helt intryckt i hörlursingången. - För flertrycksfunktioner: Variera hastigheten på tryckningarna.
Enheten svarar inte på fjärrkontrollskommandon	Full kontroll kanske inte är tillgänglig för alla Apple-produkter.
Öronpropparna ramlar av	Sätt fast öronpropparna på hörluren och haken vid munstycket.
Borttappade öronproppar	Kontakta Bose® om du behöver nya proppar.
Ljudet är dovt i hörlurarna	- Ta bort smuts eller öronvax från öronproppen och lurens munstycke. - Ta bort hörlurarna från ljudkällan och sätt sedan tillbaka dem för att vara säker på att de sitter som de ska. - Försök med en annan ljudkälla.

Använda hörlurarna

Rengöring

Du kan behöva rengöra hörlurarna med jämna mellanrum.

Öronproppar: Ta bort öronpropparna från hörlurarna. Tvätta dem med ett mildt rengöringsmedel och vatten. Skölj och torka dem noga innan du sätter tillbaka dem på hörlurarna.

Hörlurarnas munstycken: Rengör med enbart en torr, mjuk bomullstopp eller liknande. För aldrig in något rengöringsverktyg i ett munstycke.

Begränsad garanti

Bose® SoundSport in-ear-hörlurarna omfattas av en begränsad garanti. Mer information om den begränsade garantin finns på produktregistreringskortet som ligger i förpackningen. På kortet får du reda på hur du registrerar produkten. Dina garantirättigheter påverkas inte om du inte gör det.

Den garantiinformation som medföljer den här produkten gäller inte i Australien och Nya Zeeland. På webbplatsen www.bose.com.au/warranty och www.bose.co.nz/warranty finns information om vilka garantier som gäller för Australien och Nya Zeeland.

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้อย่างรอบคอบและเก็บรักษาไว้สำหรับการอ้างอิงในภายหลัง



คำเตือน:

- อย่าใช้หูฟังที่ระดับเสียงดังมากเป็นระยะเวลานาน
 - เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการได้ยินบกพร่อง ใช้หูฟังของคุณในระดับเสียงปานกลางและเหมาะสม
 - ลดระดับเสียงบนอุปกรณ์ของคุณลงก่อนเสียบหูฟังที่คุณ จากนั้น เพิ่มระดับเสียงทีละน้อยจนกระทั่งคุณได้ยินระดับเสียงที่เหมาะสมสำหรับการฟัง
- ให้ใช้งานด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้โทรศัพท์มือถือและหูฟังหากใช้หูฟังนี้เพื่อโทรศัพท์ระหว่างการขับขี่ บางพื้นที่อาจกำหนดข้อจำกัดเฉพาะ เช่น การกำหนดให้ใช้หูฟังเพียงข้างเดียวเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นขณะขับรถ
- อย่าใช้หูฟังนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นในระหว่างการขับขี่
- ให้ความสนใจในความปลอดภัยของคุณเองและของบุคคลอื่นหากคุณใช้หูฟังในขณะที่ทำกิจกรรมใดๆ ที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ เช่น ระหว่างขับขี่จักรยานหรือเดิน หรืออยู่ใกล้ถนน สถานที่ก่อสร้าง หรือวางรถไฟ ฯลฯ ถอดหูฟังหรือปรับระดับเสียงให้เบาลงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถได้ยินเสียงแวดล้อม รวมถึงเสียงเตือนภัยและสัญญาณแจ้งเตือน
- อย่าเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับช่องเสียบ ณ ที่นั่งบนเครื่องบิน เพราะอาจทำให้เกิดอาการบาดเจ็บ เช่น ฝ่ามือ หรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากความร้อนจัด
- ให้ออดหูฟังออกและตัดการเชื่อมต่อทันทีหากคุณรู้สึกถึงความร้อน หรือสัญญาณเสียงขาดหายไป
- อย่าจุ่มน้ำหรือวางอยู่ในที่โล่งใกล้น้ำเป็นเวลานาน หรือสวมหูฟังในขณะที่เล่นกีฬาทางน้ำ เช่น ขวายน้ำ สกีนน้ำ กระดานโต้คลื่น ฯลฯ
- อย่าวางสิ่งที่คุณไม่รู้จัก เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนหรือใกล้กับผลิตภัณฑ์



คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลัก ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี



คำเตือน:

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก โปรดติดต่อแพทย์ หากคุณสงสัยว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ที่ปลูกถ่ายของคุณหรือไม่



สัญลักษณ์นี้หมายความว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้เหมือนเป็นขยะตามบ้านทั่วไป และควรจัดการทิ้งให้กับสถานจัดเก็บขยะที่เหมาะสมเพื่อการนำไปรีไซเคิล การจัดการทิ้งและการรีไซเคิลอย่างเหมาะสมช่วยปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพของมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ ให้ติดต่อเทศบาลในท้องถิ่นของคุณ บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์นี้



ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องตามข้อกำหนดกับ EU Directive ที่ใช้บังคับทั้งหมด ประกาศับสมบรูณ์เกี่ยวกับความสอดคล้องสามารถอ่านได้จาก www.Bose.com/compliance

ชื่อและปริมาณสารหรือองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย						
	สารและองค์ประกอบที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย					
ชื่อชิ้นส่วน	ตะกั่ว (Pb)	ปรอท (Hg)	แคดเมียม (Cd)	โครเมียม 6 (CR(VI))	โพลีโบรมิเนเตดไบเฟนิล (PBB)	โพลีโบรมิเนเตดไดฟีนิลอีเทอร์ (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนโลหะ	X	O	O	O	O	O
ชิ้นส่วนพลาสติก	O	O	O	O	O	O
ลำโพง	X	O	O	O	O	O
สาย	X	O	O	O	O	O
ตารางนี้ได้รับการจัดเตรียมตามระเบียบแก้ไขปรับปรุงของ SJ/T 11364						
O: หมายความว่าสารอันตรายดังกล่าวนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดสำหรับชิ้นส่วนนี้ มีปริมาณต่ำกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน GB/T 26572						
X: หมายความว่าสารอันตรายดังกล่าวนี้ที่อยู่ในวัสดุที่เป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่ใช้สำหรับชิ้นส่วนนี้ มีปริมาณสูงกว่าข้อกำหนดขีดจำกัดใน GB/T 26572						

©2015 Bose Corporation ห้ามทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนของเอกสารนี้ หรือนำไปใช้งานใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษร

เกี่ยวกับหูฟัง Bose® SoundSport® in-ear ของคุณ.....	4
สิ่งที่บรรจุในกล่อง	5
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์	6
การใช้หูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ.....	6
ส่วนควบคุมหูฟัง.....	6
ฟังก์ชันพื้นฐาน.....	7
ฟังก์ชันการเล่นสื่อ	7
ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม	8
การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง	9
การต่อสายเคเบิลขยาย	9
การปรับเพื่อความสะดวกสบายและมั่นคง.....	10
การใช้คลิปหนีบติดเสื้อ.....	10
การใช้หูฟังเดี่ยว	10
การแก้ปัญหา	11
การทำความสะอาด.....	12
การรับประกันแบบจำกัด	12

iPad, iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้า ของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐ และประเทศอื่นๆ
เครื่องหมายการค้า “iPhone” ใช้ โดยได้ รับผิดชอบการใช้ จาก Aiphone K.K

“ผลิตภัณฑ์ สำหรับ iPod”, “ผลิตภัณฑ์ สำหรับ iPhone” และ “ผลิตภัณฑ์ สำหรับ iPad”
หมายความว่าอุปกรณ์ เสริมอิเล็กทรอนิกส์ ได้ รับการออกแบบ มาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ
และได้ รับการรับรองจากผู้ พัฒนาว่าตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพ ของ Apple ทั้งนี้ Apple
ไม่มีส่วนรับผิดชอบส ำหรับการท างานของอุปกรณ์ นี้ หรือความสอดคล้อง ของอุปกรณ์ ตามมาตรฐานค ำ น
ความปลอดภัยและระเบียบข้อ บังคับ โปรดทราบว่าการใช้ อุปกรณ์ เสริมนี้กับ iPod, iPhone หรือ iPad
อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ ของระบบไร้ สาย

โปรดกรอกข้อมูลและเก็บไว้เป็นบันทึกของคุณ:

หมายเลขซีเรียลและหมายเลขรุ่นจะอยู่ที่บัตรรับประกัน

หมายเลขซีเรียล _____

หมายเลขรุ่น _____

วันที่ซื้อ _____

ขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จรับเงินไว้กับคู่มือผู้ใช้

เกี่ยวกับหูฟัง Bose® SoundSport® in-ear ของคุณ


หูฟัง Bose® SoundSport® in-ear ให้เสียงสมดูลเต็มอรรถรสแบบที่หูฟังเสียบหูสำหรับเล่นกีฬาทั่วไปเทียบไม่ติด

คุณสมบัติ

- เทคโนโลยี TriPort® เอกสิทธิ์เฉพาะจะส่งมอบคุณภาพเสียงที่เป็นธรรมชาติ แม้ในระดับเสียงที่สูงขึ้น
- ทนทานต่อเหงื่อและสภาพอากาศ
- จุกสวมหูฟังที่เป็นเอกสิทธิ์ของ StayHear® เข้ากับรูปทรงหูของคุณพอดี จึงสวมใส่ในตำแหน่งเหมาะสมอย่างลงตัว แม้ระหว่างการออกกำลังกายหนักหน่วงเป็นเวลานาน
- กล่องบรรจุที่มีน้ำหนักรเบาและทนทานช่วยเก็บรักษาและปกป้องหูฟัง
- ไมโครโฟนในตัวและรีโมทให้การควบคุมสำหรับ iPod, iPhone และ iPad บางรุ่น
- สร้างและผ่านการทดสอบเพื่อคุณภาพและความทนทานที่คงอยู่เป็นระยะเวลานาน
- มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ของคุณ

สิ่งที่บรรจุในกล่อง

เปิดกล่องบรรจุอย่างระมัดระวังและตรวจสอบว่าคุณได้รับอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบถ้วน



หมายเหตุ: หูฟังมาพร้อมกับจุกสวมหูฟัง StayHear® ขนาดกลาง (สีเทา)

การใช้หูฟัง

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์


เชื่อมต่อหูฟังกับช่องรับสัญญาณหูฟังมาตรฐาน 3.5 มม. บน iPod, iPhone หรือ iPad ของคุณ



การใช้หูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ

หูฟัง Bose® SoundSport® in-ear มาพร้อมกับไมโครโฟนในตัวและรีโมทแบบ 3 ปุ่ม

ส่วนควบคุมหูฟัง



ฟังก์ชันพื้นฐาน

เพิ่มระดับเสียง	กดปุ่ม + และปล่อย
ลดระดับเสียง	กดปุ่ม - และปล่อย
รับสาย	เมื่อคุณรับสายเรียกเข้า กดปุ่มรับสาย/วางสายเพื่อรับสายนั้น
วางสาย	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสาย
ปฏิเสธสายเรียกเข้า	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย
สลับไปยังสายเรียกเข้าหรือสายที่ปักอยู่และปักสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายครั้งเดียว กดและปล่อยอีกครั้งเพื่อสลับกลับไปยังสายแรก
สลับไปยังสายเรียกเข้าหรือปักสายและวางสายที่ใช้อยู่	ในขณะที่ใช้สาย กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีแล้วปล่อย
ใช้การควบคุมด้วยเสียง	กดปุ่มรับสาย/วางสายค้างไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบควบคุมด้วยเสียงโปรดอ้างอิงคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์

ฟังก์ชันการเล่นสื่อ

เล่นหรือหยุดเพลงหรือวิดีโอชั่วคราว	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสาย
ข้ามไปข้างหน้า	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 2 ครั้ง
เดินหน้าเร็ว	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 2 ครั้งแล้วกดครั้งที่ 2 ค้างไว้
ข้ามย้อนกลับ	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 3 ครั้ง
ย้อนกลับ	กดและปล่อยปุ่มรับสาย/วางสายเร็วๆ 3 ครั้งแล้วกดครั้งที่ 3 ค้างไว้

ข้อมูลสำคัญเพื่อการสวมใส่อย่างเหมาะสม

เพื่อประสิทธิภาพเสียงที่เหมาะสมที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องเลือกจุกสวมหูฟัง StayHear® ขนาดที่เหมาะสม เลือกขนาดที่คุณใส่แล้วสบายและกระชับกับหูแต่ละข้างได้ดีที่สุด คุณอาจจะต้องลองใส่ทั้งสามขนาดเพื่อดูความกระชับที่ดีที่สุด


หมายเหตุ: เพื่อทดสอบความกระชับ ลองพูดเสียงดังๆ เสียงของคุณควรจะดังอยู่ในหูทั้งสองข้าง หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้เลือกจุกสวมหูขนาดอื่น

จุกสวมหูฟังแต่ละข้างจะมีเครื่องหมาย L หรือ R อย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแน่ใจว่าติดจุกสวมหูฟังข้างซ้าย (L) กับชิ้นส่วนหูฟังข้างซ้าย และจุกสวมหูฟังข้างขวา (R) กับชิ้นส่วนหูฟังข้างขวา



เมื่อต้องการดูว่าจุกสวมหูฟังมีขนาดที่เหมาะสมหรือไม่

1. สอดหูฟังเข้าไปในหูโดยให้จุกสวมหูฟังวางอยู่ในช่องหูอย่างนุ่มนวล
2. เอียงหูฟังออก และกดส่วนปีกของจุกสวมหูฟังให้อยู่ใต้รอยหยักของหูจนกระทั่งแน่นดี
จุกสวมหูฟังควรใส่ได้อย่างให้ความรู้สึกสบายและพอดีในช่องหูของคุณ



การเปลี่ยนจุกสวมหูฟัง

เลือกประเภทและขนาดของจุกสวมหูฟังที่ช่วยให้คุณสวมใส่ได้อย่างสบายและมีขนาดพอดี

1. ค่อยๆ ดึงตรงขอบของจุกสวมหูฟังที่แนบอยู่ออกจากหูฟัง ระวังอย่าให้จุกสวมหูฟังฉีกขาด

ข้อควรระวัง: เพื่อป้องกันการชำรุดเสียหาย อย่าดึงที่ส่วนปีกของจุกสวมหูฟัง StayHear®


2. จัดวางให้ส่วนเปิดของจุกสวมหูฟังใหม่ครอบเหนือกระบอกหูฟัง และช่องเสียบขนาดเล็กอยู่บนขอบเกี่ยวของกระบอกหูฟัง

หมายเหตุ: จุกสวมหูฟังแต่ละชิ้นจะมีเครื่องหมาย L หรือ R ติดไว้ เพื่อแสดงว่าไว้ใช้กับหูฟัง

ข้างใด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดจุกสวมหูฟัง StayHear® ข้างซ้ายกับส่วนหูฟัง

ข้างซ้าย และจุกสวมหูฟัง StayHear® ข้างขวากับส่วนหูฟังข้างขวา

3. ค่อยๆ ดันส่วนฐานของจุกสวมหูฟังลงที่ส่วนฐานของหูฟัง จนกระทั่งรู้สึกว่าจุกสวมหูฟังติดกับหูฟังแน่นหนาดี



การต่อสายเคเบิลขยาย

ต่อสายเคเบิลขยายเพื่อเพิ่มความยาวของสายเคเบิลระหว่างหูฟังและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

1. ต่อปลายสายเคเบิลขยายด้านตัวเมียกับสายเคเบิลหูฟัง
2. ต่อปลายสายเคเบิลขยายอีกด้านหนึ่งเข้ากับช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม. บนอุปกรณ์ของคุณ


การใช้หูฟัง

การปรับเพื่อความสบายและมั่นคง

มีหลายวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนหูฟังของคุณเพื่อให้ความสบายและมั่นคงยิ่งขึ้น คุณสามารถปรับลักษณะการสวมหูฟังได้โดยใช้ตัวเลื่อนปรับตำแหน่งและคลิปหนีบติดเสื้อ

การใช้คลิปหนีบติดเสื้อ

ใช้คลิปหนีบติดเสื้อเพื่อยึดสายชุดหูฟังกับเสื้อของคุณ เพื่อความสะดวก มั่นคง และช่วยในการจัดการสายชุดหูฟัง อุปกรณ์นี้มีประโยชน์ระหว่างกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวสูง หรือเมื่อใช้หูฟังในรูปแบบหูฟังเดี่ยว



การใช้หูฟังเดี่ยว

หูฟัง Bose® SoundSport® in-ear สามารถใช้กับส่วนหูฟังด้านขวา (R) เท่านั้น ช่วยให้คุณรับสายโดยที่ยังได้ยินเสียงรอบข้าง

การแก้ปัญหา

หากคุณประสบปัญหาใดๆ ในการใช้ชุดหูฟังของคุณ โปรดลองปฏิบัติตามการแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้

ปัญหา	สิ่งที่ต้องทำ
ไม่มีเสียง/เสียงขาดๆ หายๆ	• เสียบปลั๊กหูฟังกับช่องสัญญาณหูฟังอย่างแน่นหนา • ลองใช้อุปกรณ์เสียงอื่น
เสียงทึบมากเกินไป	• ปิดคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพเสียงที่แหล่งเสียง
ไมโครโฟนไม่รับเสียง	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ โปรดดูรายชื่ออุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ในกล่องผลิตภัณฑ์ • เสียบปลั๊กหูฟังกับช่องสัญญาณหูฟังอย่างแน่นหนา • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องเปิดของไมโครโฟนที่ด้านหลังปุ่มรับสาย/วางสายไม่ได้ถูกปิดกั้น • ลองโทรออกใหม่ • ลองอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้เครื่องอื่น
อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อการกดรีโมท (ปุ่ม)	• เสียบปลั๊กหูฟังกับช่องสัญญาณหูฟังอย่างแน่นหนา • สำหรับฟังก์ชันกดหลายครั้ง: ใช้ความเร็วการกดที่ต่างกัน
อุปกรณ์ไม่ตอบสนองต่อรีโมท	• อาจไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์บางอย่างของ Apple ได้อย่างสมบูรณ์
จุกสวมหูฟังหลุดออก	• ติดจุกสวมหูฟังเข้ากับส่วนหูฟังและกระบอกหูฟังอย่างแน่นหนา
จุกสวมหูฟังสูญหาย	• ติดต่อ Bose® สำหรับจุกสวมหูฟังที่ใช้เปลี่ยนแทน
เสียงจากหูฟังไม่ชัดเจน	• ทำความสะอาดฝุ่นผงหรือขี้หูในจุกสวมหูฟังและกระบอกหูฟังออกทั้งหมด • ถอดหูฟังออกจากแหล่งเสียงนั้น แล้วเสียบกลับอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแน่นดี • ลองใช้อุปกรณ์เสียงอื่น

การใช้หูฟัง

การทำความสะอาด

หูฟังชุดนี้อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดเป็นครั้งคราว

จุดสวมหูฟัง: ถอดจุดสวมหูฟังออกจากหุ้ม ทำความสะอาดโดยใช้ผงซักฟอกอย่างอ่อนกับน้ำ ดูให้แน่ใจว่าคุณล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างทั่วถึงและตากแห้งแล้ว ก่อนสวมครอบที่หูฟังอีกครั้ง

กระบอกหูฟัง: ทำความสะอาดด้วยสาลีก้อนที่แห้งและนุ่มหรือวัสดุที่ใกล้เคียงกัน อย่าใช้เครื่องมือทำความสะอาดใดๆ เสียบเข้าไปในกระบอกหูฟัง

การรับประกันแบบจำกัด

หูฟัง Bose® SoundSport® in-ear ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันแบบจำกัด รายละเอียดของการรับประกันแบบจำกัดนี้ มีอยู่ในบัตรลงทะเบียนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมอยู่ในกล่อง โปรดดูบัตรลงทะเบียนสำหรับคำแนะนำในการลงทะเบียน แม้จะไม่ดำเนินการดังกล่าวก็จะมีผลต่อการรับประกันแบบจำกัดของคุณ

ข้อมูลการรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีผลบังคับใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ดูรายละเอียดการรับประกันในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จากเว็บไซต์ของเราที่

www.bose.com.au/warranty หรือ www.bose.co.nz/warranty

중요 안전 지침

이 사용자 안내서를 주의하여 읽고 향후 참조를 위해 보관하십시오.



경고:

- 오랫동안 큰 볼륨으로 헤드폰을 **사용하지 마십시오.**
 - 청력 손상을 피하려면 편안한 중간 볼륨으로 헤드폰을 사용하십시오.
 - 헤드폰을 귀에 착용하기 전에 장치에서 볼륨을 줄인 후 편안한 청취 수준으로 서서히 볼륨을 올리십시오.
- 운전 중 전화 통화를 위해 헤드폰을 사용하는 경우 주의를 기울이고 모바일 전화 및 헤드폰에 관해 적용되는 **법률을 따르십시오.** 일부 지역에서 운전 중에는 한쪽 이어피스를 사용해야 하는 등, 제품 사용에 대한 특정 제한 사항이 부과될 수 있습니다.
- 운전 중에는 헤드폰을 절대 다른 용도로 **사용하지 마십시오.**
- 예를 들어 자전거를 타거나 교통, 건설 현장 또는 철로 근처에서 걷는 등, 사용자의 주의를 필요로 하는 행동을 하는 동안 헤드폰을 사용할 경우 반드시 사용자의 안전과 타인의 안전에 집중하십시오. 헤드폰을 벗거나 노이즈 캔슬링을 끈 상태로 헤드폰을 사용하고, 경보와 경고 신호를 포함한 주변 소리를 들을 수 있을 정도로 **볼륨을 조정하십시오.**
- 열로 인해 화상이나 재산상의 손해 등 인적 상해가 발생할 수 있으니, 휴대폰 어댑터를 헤드폰과 항공기 좌석 책에 연결하여 **사용하지 마십시오.**
- 따뜻하게 느껴지거나 오디오가 손실될 경우 **즉시 벗으십시오.**
- 헤드폰을 물에 담그거나 장시간 동안 물에 노출하지 마십시오. 수영, 수상스키, 서핑 등 해상 스포츠 활동 중에는 **착용하지 마십시오.**
- 촛불과 같은 무방비 상태의 불꽃을 제품 위나 근처에 **두지 마십시오.**



경고:

질식 위험이 발생할 수 있는 소형 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만의 어린이가 사용하기에 부적합합니다.



경고:

이 제품에는 자석 재질이 포함되어 있습니다. 사용자 몸에 이식한 의료 기기의 작동에 어떤 영향이 있는지에 관해 질문이 있을 경우 의사에게 문의하십시오.



이 표시는 제품을 가정용 쓰레기처럼 폐기해서는 안 되며 적합한 수거 시설에 보내 재생해야 함을 의미합니다. 올바른 폐기와 재생을 통해 천연 자원, 인류 건강 및 환경을 보호하는 데 일조할 수 있습니다. 이 제품의 폐기 및 재생에 대한 자세한 정보는 지방 자치체, 폐기물 수거 업체 또는 이 제품을 구입한 매장에 문의하십시오.


 이 제품은 적용되는 모든 EU 지침서 요구사항을 준수합니다. 표준 부합 신고서 전문은 www.Bose.com/compliance를 참조하십시오.

유해 물질의 명칭 및 농도						
	유해 물질		카드뮴	6가 크롬	폴리브롬화 바이페닐	폴리브롬화 디페닐에테르
부품 번호	납 (Pb)	수은 (Hg)	(Cd)	(VI)	(PBB)	(PBDE)
폴리염화 바이페닐(PCB)	X	0	0	0	0	0
금속 부품	X	0	0	0	0	0
플라스틱 부품	0	0	0	0	0	0
스피커	X	0	0	0	0	0
케이블	X	0	0	0	0	0
본 테이블은 SJ/T 11364 조항에 따라 준비되었습니다. O: 이 부품의 모든 동종 재질이 함유된 언급된 유해 물질이 GB/T 26572의 제한 요구사항 미만임을 나타냅니다. X: 이 부품에 사용된 동종 재질 중 최소 하나에 함유된 언급된 유해 물질이 GB/T 26572의 제한 요구사항을 초과함을 나타냅니다.						

©2015 Bose Corporation. 사전 서면 승인 없이 본 설명서의 특정 부분을 복제, 변경, 배포 또는 사용할 수 없습니다.

Bose® SoundSport® 인-이어 헤드폰에 대하여.....	4
특징	4
포장 내용물	5
장치 연결	6
장치에 헤드폰 사용	6
헤드폰 컨트롤	6
기본 기능	7
미디어 재생 기능	7
올바른 착용의 중요성	8
이어팁 교환	9
연장 케이블 부착	9
편안하게 잘 고정되도록 조정	10
클립 사용	10
단일 이어피스 사용	10
문제 해결	11
청소	12
제한 보증	12

iPad, iPhone 및 iPod는 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다. 상표 "iPhone"은 Aiphone K.K.의 사용권 계약에 따라 사용됩니다.

"Made for iPod," "Made for iPhone" 및 "Made for iPad"는 iPod, iPhone 또는 iPad를 각기 연결하기 위해 특수 제작된 전자 액세서리를 말하며 Apple 성능 표준을 만족하기 위해 개발업체에서 인증한 제품입니다. Apple은 이 장치의 작동 또는 안전 및 규제 표준의 준수에 대한 책임이 없습니다. 이 액세서리를 iPod, iPhone 또는 iPad에 사용하면 무선 성능에 영향을 줄 수 있음에 유의하십시오.

기록용으로 작성하여 보관하십시오.

일련 번호 및 모델 번호는 보증 카드에 있습니다.

일련 번호 _____

모델 번호 _____

구입일 _____

영수증을 사용자 안내서와 함께 보관하십시오.

헤드폰 사용

Bose® SoundSport® 인-이어 헤드폰에 대하여


Bose® SoundSport® 인-이어 헤드폰은 기존의 스포츠 이어버드가 제공하지 못하는 완벽한 균형 잡힌 사운드를 제공합니다.

특징

- 독점 TriPort® 기술이 큰 볼륨에서도 자연스러운 저음을 제공합니다.
- 땀에 대한 저항 및 내후성을 갖췄습니다.
- 독점 기술의 StayHear® 팁은 사용자의 귀 모양에 잘 맞아서 장시간 활발한 운동 중에도 편안하게 제 위치를 벗어나지 않습니다.
- 가볍고 내구성 있는 휴대용 케이스는 헤드폰을 보관하고 보호합니다.
- 인라인 마이크와 리모콘은 엄선한 iPod, iPhone 및 iPad 모델의 조작을 위해 제공됩니다.
- 오래가는 품질과 내구성을 위해 설계 및 테스트되었습니다.
- 사용자 스타일에 맞게 여러 색상으로 제공됩니다.

포장 내용물

조심스럽게 포장을 풀고 다음 부품이 있는지 확인합니다.



참고: 헤드폰에는 중형(회색) StayHear® 팁이 부착되어 제공됩니다.

헤드폰 사용

장치 연결


헤드폰을 iPod, iPhone 또는 iPad의 표준 3.5mm 헤드폰 입력에 연결합니다.



장치에 헤드폰 사용

Bose® SoundSport® 인-이어 헤드폰에는 인라인 마이크와 3 버튼 리모콘이 제공됩니다.

헤드폰 컨트롤



기본 기능

볼륨 올리기	+ 버튼을 눌렀다 놓습니다.
볼륨 내리기	- 버튼을 눌렀다 놓습니다.
전화 수신	전 화가 걸려 오면 통화/종료 버튼을 눌러 전화를 받습니다.
통화 종료	통화/종료 버튼을 눌렀다 놓습니다.
걸려오는 전화 거부	통화/종료 버튼을 약 2초 간 길게 눌렀다 놓습니다.
걸려온 또는 보류 중인 통화로 전환하고 현재 통화를 보류	통화 중에 통화/종료 버튼을 한 번 눌렀다 놓습니다. 다시 눌렀다 놓으면 첫 번째 통화로 전환됩니다.
걸려온 또는 보류 중인 통화로 전환하고 현재 통화를 종료	통화 중에 통화/종료 버튼을 약 2초 동안 눌렀다 놓습니다.
음성 제어 사용	통화/종료 버튼을 길게 누릅니다. 음성 제어에 대한 자세한 정보는 장치 사용자 안내서를 참조하십시오.

미디어 재생 기능

노래 또는 비디오 재생 또는 일시 중지	통화/종료 버튼을 눌렀다 놓습니다.
앞으로 건너뛰기	통화/종료 버튼을 빠르게 두 번 눌렀다 놓습니다.
빨리 감기	통화/종료 버튼을 빠르게 두 번 눌렀다 놓되 두 번째 누르기를 길게 누릅니다.
뒤로 건너뛰기	통화/종료 버튼을 빠르게 세 번 눌렀다 놓습니다.
되감기	통화/종료 버튼을 빠르게 세 번 눌렀다 놓되 세 번째 누르기를 길게 누릅니다.

헤드폰 사용

올바른 착용의 중요성

최적의 오디오 성능을 위해 올바른 크기의 StayHear® 팁을 선택하는 것이 중요합니다. 각 귀에 가장 편안하게 맞는 크기를 선택하십시오. 세 가지 모든 크기를 시도해보고 나서 가장 잘 맞는 것을 결정하는 것이 좋습니다.


참고: 착용성을 테스트하려면 큰 소리로 말해 보십시오. 양쪽 귀에 목소리가 줄어서 들려야 합니다. 그렇지 않을 경우 다른 크기의 팁을 선택하십시오.

각 팁에는 L(왼쪽) 또는 R(오른쪽) 표시가 있습니다. 왼쪽 팁(L)은 왼쪽 이어피스에, 오른쪽 팁(R)은 오른쪽 이어피스에 부착하십시오.



팁이 올바른 크기인지 확인하려면

1. 팁이 귓구멍 입구에 편안하게 고정되도록 헤드폰을 귀에 삽입합니다.
2. 헤드폰을 뒤로 기울이고 귀이랑 아래에서 팁 날개를 눌러서 고정시킵니다.
팁이 귀 안에 편안하게 고정되어 착용되어야 합니다.



이어팁 교환

가장 편안하게 들어맞는 이어 팁의 유형과 크기를 선택합니다.


1. 팁이 찢어지지 않도록 주의하면서 부착된 팁의 가장자리를 이어피스에서 부드럽게 벗겨냅니다.

주의: 손상될 수 있으므로 StayHear® 팁 날개를 잡아당기지 마십시오.

2. 새 팁의 입구를 노즐 위에 놓고 작은 슬롯을 노즐 후크 위에 놓습니다.

참고: 각 팁에는 사용할 해당 이어피스를 나타내기 위해 **L** 또는 **R** 표시가 되어 있습니다. 왼쪽 StayHear® 팁을 왼쪽 이어피스에 부착하고 오른쪽 StayHear® 팁을 오른쪽 이어피스에 부착해야 합니다.

3. 팁의 밑면을 이어피스 베이스에 부드럽게 넣어 팁을 고정합니다.



연장 케이블 부착

연장 케이블을 부착하여 헤드폰과 모바일 장치 사이에 케이블 길이를 연장합니다.

1. 헤드폰 케이블에 연장 케이블의 암놈 쪽을 연결합니다.
2. 연장 케이블의 반대쪽을 장치의 표준 3.5mm 헤드폰 입력에 연결합니다.


헤드폰 사용

편안하게 잘 고정되도록 조정

편안하게 잘 고정되도록 헤드폰을 조절하는 방법이 몇 가지 있습니다. 조절 슬라이더와 클립을 사용하여 헤드폰을 착용하는 방법을 조정할 수 있습니다.

클립 사용

클립을 사용하여 케이블을 옷에 고정해 두면 편안하고 안정적이며, 케이블을 쉽게 관리할 수 있습니다. 클립은 움직임이 많은 활동 또는 단일 이어폰 구성에서 헤드폰을 사용할 때 유용할 수 있습니다.



단일 이어피스 사용

Bose® SoundSport® 인-이어 헤드폰은 오른쪽(R) 이어피스로만 사용할 수도 있습니다. 이렇게 하면 통화를 하면서 주변의 소리를 들을 수 있습니다.

문제 해결

헤드폰 사용에 문제가 있는 경우 다음 문제 해결 지침을 따르십시오.

문제	해결 방법
오디오가 나오지 않거나 간헐적인 경우	• 헤드폰 입력에 헤드폰 플러그를 단단히 연결합니다. • 다른 오디오 장치를 사용해 보십시오.
저음이 과도할 경우	• 오디오 장치의 오디오 향상 기능을 끄십시오.
마이크가 작동하지 않을 경우	• 호환되는 장치를 사용하고 있는지 확인하십시오. 제품 포장에서 호환 장치 목록을 참조하십시오. • 헤드폰 입력에 헤드폰 플러그를 단단히 연결합니다. • 통화/종료 버튼 뒤에 마이크 구멍이 막히지 않았는지 확인하십시오. • 다시 통화를 시도해 보십시오. • 다른 호환 장치를 사용해 보십시오.
장치가 리모콘 버튼 누르기에 반응하지 않는 경우	• 헤드폰 입력에 헤드폰 플러그를 단단히 연결합니다. • 여러 번 누르기 기능의 경우: 누르기 속도를 바꿔 보십시오.
장치가 리모콘에 반응하지 않는 경우	• 일부 Apple 제품은 모든 제어가 가능하지 않을 수도 있습니다.
이어팁이 떨어질 경우	• 이어팁을 이어피스와 노즐 후크에 단단히 부착합니다.
이어팁을 분실한 경우	• Bose®에 교체용 팁을 문의하십시오.
소리가 이어피스에서 분명하게 들리지 않을 경우	• 이어팁과 헤드폰 노즐에서 먼지나 기름때를 청소하십시오. • 헤드폰을 오디오 장치에서 분리한 다음 다시 꽂아서 제대로 연결되었는지 확인하십시오. • 다른 오디오 장치를 사용해 보십시오.

헤드폰 사용

청소

헤드폰은 주기적인 청소가 필요할 수 있습니다.

이어팁: 헤드폰에서 이어팁을 제거합니다. 자극이 적은 세제와 물로 팁을 세척합니다. 완전히 헹구고 말린 후 헤드폰에 다시 끼웁니다.

헤드폰 노즐: 부드럽고 마른 면봉 등으로만 청소하십시오. 노즐에 청소 도구를 끼워 넣으면 안됩니다.

제한 보증

Bose® SoundSport 인-이어 헤드폰은 제한 보증의 적용을 받습니다. 제한 보증의 자세한 내용은 제품 포장에 포함된 등록 카드에 제공되어 있습니다. 등록 방법은 카드의 지침을 참조하십시오. 등록하지 않더라도 제한 보증에 대한 권리에는 영향이 없습니다.

이 제품에 제공된 보증 정보는 오스트레일리아와 뉴질랜드에는 적용되지 않습니다. 오스트레일리아와 뉴질랜드 보증에 대한 자세한 정보는 웹사이트 www.bose.com.au/warranty 또는 www.bose.co.nz/warranty를 참조하십시오.

重要安全性指示

请仔细阅读本用户指南，并将其保存以供日后参考。



警告：

- 请勿长时间在高音量下使用耳机。
 - 为了避免听力受损，请以舒适、适度的音量使用耳机。
 - 先将设备音量调低，然后再戴上耳机，之后再逐渐调高音量，直到达到舒适的听觉水平。
- 如在驾驶时通过本耳机进行通话，应谨慎使用，并遵守关于手机和耳机使用的适用法律。有些地方的法律对在驾驶时使用此类产品有特别限定，如单耳承的配置。
- 请勿在驾驶时将耳机用作其他用途。
- 如果您在从事需要集中注意力的活动时使用耳机，应注意您自身和他人的安全，例如骑自行车时或在道路、施工现场或铁路上或附近步行时。您应取下耳机或调整音量，以确保可以听到周围的声音，包括警报和警告信号。
- 请勿使用手机适配器连接耳机和飞机座椅插孔，因为由此产生的高温会导致灼伤等人身伤害或财产损失。
- 应在感觉到发热或听不到声音时立即取下耳机并断开连接。
- 请勿将耳机浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下，或在游泳、滑水、冲浪等水上运动过程中佩戴。
- 请勿将明火火源（如点燃的蜡烛）置于本产品上或靠近本产品。



警告：

包含小部件，可能导致窒息危险。不适合 3 岁以下的儿童使用。



警告：

本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。



此标志表示本产品不得作为生活垃圾丢弃，必须送至相关回收部门循环利用。适当的处理和回收有助于保护自然资源、人类健康以及自然环境。想了解更多有关本产品和回收的信息，请与当地民政部门、处理服务部或购买本产品的商店联系。



本产品符合所有适用的欧盟指令要求。您可以从 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合声明。

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质和元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑料零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
线缆	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 标准。						
0: 表示此零件中所有同类物质包含的有害物质低于 GB/T 26572 中的限定要求。						
X: 表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有害物质高于 GB/T 26572 中的限定要求。						
						

©2015 Bose Corporation。未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。

关于 Bose® SoundSport® 入耳式耳机	4
特点	4
包装箱内容	5
连接至您的设备	6
在设备中使用该耳机	6
耳机控件	6
基本功能	7
媒体播放功能	7
正确安装重要提示	8
更换耳塞	9
连接扩展线缆	9
调整耳机以实现舒适感和稳定性	10
使用衣夹	10
使用单个耳承	10
故障诊断	11
清洁	12
有限质保	12

iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美国及其他国家/地区的注册商标。已从 Aiphone K.K 获得“iPhone”商标的使用许可。

“iPod 专用”、“iPhone 专用”和“iPad 专用”表示电子附件专门设计用来分别与 iPod、iPhone 或 iPad 相连，并且通过了开发商的认证，符合 Apple 的性能标准。Apple 对此装置的工作或其与安全规章标准的符合性概不负责。请注意，如果在 iPod、iPhone 或 iPad 上使用此附件可能会影响无线性能。

请填写以下内容，留作记录：

可以在质保卡上找到序列号和型号。

序列号 _____

型号 _____

购买日期 _____

建议您将发票和本用户指南保存在一起。

使用耳机

关于 Bose® SoundSport® 入耳式耳机


Bose® SoundSport® 入耳式耳机提供传统运动耳塞无法比拟的饱满、平衡的声音。

特点

- 独特的 TriPort® 技术在高音量下也能提供舒适自然的低频音质。
- 防汗且耐气候。
- 专有的 StayHear® 耳塞可完美贴合您的耳型，即使在长时间的剧烈运动中也可以舒适的固定在耳朵里。
- 轻薄耐用的便携盒可以储存并保护耳机。
- 可控制精品 iPod、iPhone 和 iPad 型号的内嵌麦克风和遥控器。
- 产品经设计和测试，质优耐用。
- 颜色多样，任您挑选。

包装箱内容

小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：



注意：耳机随附有中型（灰色）StayHear® 耳塞。

使用耳机

连接至您的设备


将耳机连接至 iPod、iPhone 或 iPad 上的标准 3.5 mm 耳机输入端口。



在设备中使用该耳机

Bose® SoundSport® 入耳式耳机随附有内嵌麦克风和 3 按钮遥控器。

耳机控件



基本功能

提高音量	按下并释放 + 按钮。
降低音量	按下并释放 - 按钮。
接听呼叫	当您收到来电时，按下并释放“接听/结束”按钮即可接听。
结束呼叫	按下并释放“接听/结束”按钮。
拒绝接听来电	按住“接听/结束”按钮 2 秒钟，然后释放。
切换至来电或等候接听的呼叫并保持当前来电处于等候接听状态	进行呼叫时，按一下“接听/结束”按钮。再次按下并释放可切换回第一个呼叫。
切换至来电或等候接听的呼叫并结束当前呼叫	进行呼叫时，按住“接听/结束”按钮 2 秒钟，然后释放。
使用声音控件	按住“接听/结束”按钮。 有关“语音控制”的更多信息，请参阅设备用户指南。

媒体播放功能

播放或暂停歌曲或视频	按下并释放“接听/结束”按钮。
向前跳过	连续两次快速按下并释放“接听/结束”按钮。
快进	连续两次快速按下并释放“接听/结束”按钮并在第二次按下时按住不放。
向后跳过	连续三次快速按下并释放“接听/结束”按钮。
快退	连续三次快速按下并释放“接听/结束”按钮并在第三次按下时按住不放。

使用耳机

正确安装重要提示

选择正确尺寸的 StayHear® 耳塞对于获取最佳音频性能至关重要。选择可带给您最佳舒适感并适合每只耳朵的尺寸。您可能需要尝试全部三种尺寸以确定适合您的最佳型号。

注意：您可大声说话测试耳塞。两只耳朵都应当听不清自己的声音。如果不是这样，请选择另一种尺寸的耳塞。


每个耳塞都标有 L（左）或 R（右），请务必将左侧耳塞连接在左耳承（L），右侧耳塞连接在右耳承（R）上。



要确定耳塞的尺寸是否合适：

1. 将耳机塞入耳朵，让耳塞轻轻地置放在耳道的开阔处。
2. 将耳机向后倾斜，将耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。

耳塞应该舒服又牢固地固定在耳朵里。



更换耳塞

选择最舒服和合适的耳塞类型和尺寸。


1. 轻轻地将连接的耳塞边缘从耳承上取下，一定要小心不要损坏耳塞。

注意：为了防止造成损坏，请勿拖拉 StayHear® 耳塞的翼部。

2. 将新耳塞的开口处和小插槽分别对准耳承的出音孔和出音孔上的弯钩。

注意：每个耳塞上都标有 **L**（左）或 **R**（右），以表明用于左侧还是右侧耳承。请务必将左侧 StayHear® 耳塞连接在左侧耳承上，右侧 StayHear® 耳塞连接在右侧耳承上。

3. 围绕耳承底部轻轻向下移动耳塞，直到感觉耳塞已经固定牢固。



连接扩展线缆

连接扩展线缆可增长耳机和移动设备间的线缆长度。

1. 将扩展线缆的内孔端连接至耳机线缆。
2. 将扩展线缆的另一端连接到您的设备上的标准 3.5 mm 耳机输入端口。


使用耳机

调整耳机以实现舒适感和稳定性

您可以通过多种方式调整耳机以得到额外的舒适感和稳定性。您可以使用调整滑块和衣夹随意佩戴耳机。

使用衣夹

使用衣夹可将线缆固定到衣服以实现便利性和稳定性，而且可以帮助管理线缆。在运动过程中或以单耳承配置使用耳机时，使用衣夹很有帮助。



使用单个耳承

您可以只使用 Bose® SoundSport® 入耳式耳机的右 (R) 耳承。这样您可以在通话时仍能听到周围的声音。

故障诊断

如果您在使用耳机时遇到任何问题，请根据下面的故障诊断说明尝试解决。

问题	措施
没有声音/间断性发声	- 将耳机插头牢固地连接至耳机输入端口。 - 试试另一个音频设备。
低音过强	关闭音频来源上的任何音频增强功能。
麦克风没有接收到声音	- 确保您使用的是兼容设备。请参阅产品包装箱上的兼容设备列表。 - 将耳机插头牢固地连接至耳机输入端口。 - 确保“接听/结束”按钮后面的麦克风开口未被阻挡。 - 尝试再次通话。 - 试试另一个兼容设备。
设备对遥控器（按钮）的按压操作无反应	- 将耳机插头牢固地连接至耳机输入端口。 - 连按功能：用不同的速度按键。
设备对遥控器操作无反应	在部分 Apple 产品中可能无法使用全部控件。
耳塞跌落	将耳塞稳固连接至耳承和出音孔弯钩。
耳塞丢失	联系 Bose® 获取备用耳塞。
耳承声音不清	- 清除耳塞和耳机出音孔上的碎屑和耳垢。 - 从音源上拔下耳机，然后重新插入，以确保连接牢固。 - 试试另一个音频设备。

使用耳机

清洁

您的耳机可能需要定期清洁：

耳塞：从耳机上取下耳塞。用中性洗涤剂 and 清水清洗。确保在将它们安装到耳机上之前对其进行了彻底的冲洗和干燥处理。

耳机出音孔：只能使用干燥、柔软的棉质抹布或类似物品清洁。切勿将任何清洁工具插入出音孔。

有限质保

Bose® SoundSport 入耳式耳机的保修期有限。包装箱中随附的产品登记卡上提供了有限质保的详细内容。有关如何登记的说明，请参见产品注册卡。未进行注册并不影响您的有限质保权利。

此产品的质保信息不适用于澳大利亚和新西兰。有关澳大利亚和新西兰的保修信息，请浏览 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

重要安全性指示

請仔細閱讀本使用者指南，並將其保存以供日後參考。



警告：

- 請勿長時間在高音量下使用耳機。
 - 為了避免聽力受損，請以舒適、適度的音量使用耳機。
 - 先將裝置音量調低，然後再戴上耳機，之後再逐漸調高音量，直到達到舒適的聽覺效果。
- 若在駕駛時透過本耳機進行通話，應謹慎使用，並遵守關於行動電話和耳機使用的適用法律。有些地方的法律對在駕駛時使用此類產品有特別限定，如單耳承的組態。
- 請勿在駕駛時將耳機用作其他用途。
- 若您在從事需要集中注意力的活動時使用耳機，應注意您自身和他人的安全，例如騎自行車時或在道路、施工現場或鐵路上或附近步行時。您應取下耳機或調整音量，以確保可以聽到週圍的聲音，包括警報和警告訊號。
- 請勿使用行動電話配接器來連接耳機和飛機座椅插孔，因為由此產生的高溫會導致灼傷等人身傷害或財產損失。
- 應在感覺到發熱或聽不到聲音時立即取下耳機並斷開連接。
- 請勿將耳機浸入水中或長時間暴露在潮濕環境下，或在游泳、滑水、衝浪等水上運動過程中佩戴。
- 請勿 明火火源（如点燃的蜡）置於本 品上或靠近本 品。



警告：

包含小部件，可能導致窒息危險。不適合 3 歲以下的兒童使用。



警告：

本產品含有磁性材料。如果懷疑此產品會影響植入醫療設備的運行，請諮詢醫生。



此標誌表示本產品不得作為生活垃圾丟棄，必須送至相關回收部門循環利用。適當的處理和回收有助於保護自然資源、人類健康以及自然環境。想了解更多有關本產品和回收的資訊，請與當地民政部門、處理服務部或購買本產品的商店聯絡。



本產品符合所有適用的歐盟指令要求。您可以從 www.Bose.com/compliance 找到完整的符合聲明。

有毒或有害物質或元素的名稱及成分						
	有毒或有害物質或元素					
零件名稱	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (CR(VI))	多溴化聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印電路板	X	0	0	0	0	0
金屬零件	X	0	0	0	0	0
塑膠零件	0	0	0	0	0	0
揚聲器	X	0	0	0	0	0
連接線	X	0	0	0	0	0
此表格符合 SJ/T 11364 標準。						
0：表示此零件中所有同類物質包含的有害物質低於 GB/T 26572 中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同類物質中至少有一種包含的有害物質高於 GB/T 26572 中的限定要求。						
						

關於 Bose® SoundSport® 入耳式耳機	4
特點	4
包裝箱內容	5
連接至您的裝置	6
在裝置中使用該耳機	6
耳機控制項	6
基本功能	7
媒體播放功能	7
正確安裝重要提示	8
更換耳塞	9
連接擴展線纜	9
調整耳機以實現舒適感和穩定性	10
使用衣夾	10
使用單個耳承	10
疑難排解	11
清潔	12
有限質保	12

iPad、iPhone 和 iPod 是 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。已從 Aiphone K.K 獲得「iPhone」商標的授權。

「iPod 專用」、「iPhone 專用」和「iPad 專用」表示電子附件專門設計用來分別與 iPod、iPhone 或 iPad 相連，並且通過了開發商的認證，符合 Apple 的效能標準。Apple 對此裝置的工作或其與安全和規章標準的符合性概不負責。請注意，若在 iPod、iPhone 或 iPad 上使用此附件可能會影響無線效能。

請填寫以下內容，留作記錄：

可以在質保卡上找到序號和型號。

序號 _____

型號 _____

購買日期 _____

建議您將發票和本使用者指南保存在一起。

使用耳機

關於 Bose® SoundSport® 入耳式耳機


Bose® SoundSport® 入耳式耳機提供傳統運動耳塞無法比擬的飽滿、平衡的聲音。

特點

- 獨特的 TriPort® 技術在高音量下也能提供舒適自然的低頻音質。
- 防汗且耐氣候。
- 專有的 StayHear® 耳塞可完美貼合您的耳型，即使在長時間的劇烈運動中也可以舒適的固定在耳朵裡。
- 輕薄耐用的便攜盒儲存並保護耳機。
- 可控制精品 iPod、iPhone 和 iPad 型號的內嵌麥克風和遙控器。
- 產品經設計和測試，質優耐用。
- 顏色多樣，任您挑選。

包裝箱內容

小心地拆開包裝箱並確認是否含有以下部件：



備註：耳機隨附有中型（灰色）StayHear® 耳塞。

使用耳機

連接至您的裝置


將耳機插入 iPod、iPhone 或 iPad 上的標準 3.5 mm 耳機輸入端口。



在裝置中使用該耳機

Bose® SoundSport® 入耳式耳機隨附有內嵌麥克風和 3 按鈕遙控器。

耳機控制項



基本功能

提高音量	按下並釋放 + 按鈕。
降低音量	按下並釋放 - 按鈕。
接聽呼叫	當您收到來電時，按下並釋放「接聽/結束」按鈕即可接聽。
結束呼叫	按下並釋放「接聽/結束」按鈕。
拒絕接聽來電	按住「接聽/結束」按鈕 2 秒鐘，然後釋放。
切換至來電或等候接聽的呼叫並保持當前來電處於等候接聽狀態	進行呼叫時，按一下「接聽/結束」按鈕。再次按下並釋放可切換回第一個呼叫。
切換至來電或等候接聽的呼叫並結束當前呼叫	進行呼叫時，按住「接聽/結束」按鈕 2 秒鐘，然後釋放。
使用聲音控制項	按住「接聽/結束」按鈕。 有關「語音控制」的更多資訊，請參閱裝置使用者指南。

媒體播放功能

播放或暫停歌曲或視訊	按下並釋放「接聽/結束」按鈕。
快轉跳過	連續兩次快速按下並釋放「接聽/結束」按鈕。
向前快轉	連續兩次快速按下並釋放「接聽/結束」按鈕並在第二次按下時按住不放。
倒轉跳過	連續三次快速按下並釋放「接聽/結束」按鈕。
倒轉	連續三次快速按下並釋放「接聽/結束」按鈕並在第三次按下時按住不放。

使用耳機

正確安裝重要提示

選擇正確尺寸的 StayHear® 耳塞對於獲取最佳音訊效能至關重要。選擇可帶給您最佳舒適感並適合每只耳朵的尺寸。您可能需要嘗試全部三種尺寸以確定適合您的最佳型號。

備註：您可大聲說話測試耳塞。兩隻耳朵都應當聽不清自己的聲音。如果不是這樣，請選擇另一種尺寸的耳塞。


每個耳塞都標有 L（左）或 R（右），請務必將左側耳塞連接在左耳承（L），右側耳塞連接在右耳承（R）上。



要確定耳塞的尺寸是否合適：

1. 將耳機塞入耳朵，讓耳塞輕輕地置放在耳道的開闊處。
2. 將耳機向後傾斜，將耳塞翼部塞到耳甲下，直至牢固固定。

耳塞應該舒服又牢固地固定在耳朵裡。



更換耳塞

選取最舒服和合適的耳塞類型和尺寸。


1. 輕輕地將連接的耳塞邊緣從耳承上取下，一定要小心不要損壞耳塞。

注意：為了防止造成損壞，請勿拖拉 StayHear® 耳塞的翼部。

2. 將新耳塞的開口處和小插槽分別對準耳承的出音孔和出音孔上的彎鉤。

備註：每個耳塞上都標有 **L**（左）或 **R**（右），以表明用於左側還是右側耳承。
請務必將左側 StayHear® 耳塞連接在左側耳承上，右側 StayHear® 耳塞連接在右側耳承上。

3. 圍繞耳承底部輕輕向下移動耳塞，直到感覺耳塞已經固定牢固。



連接擴展線纜

連接擴展線纜可增長耳機和移動裝置間的線纜長度。

1. 將擴展線纜的內孔端連接至耳機線纜。
2. 將擴展線纜的另一端連接到您的裝置上的標準 3.5 mm 耳機輸入端口。


使用耳機

調整耳機以實現舒適感和穩定性

您可以透過多種方式調整耳機以得到額外的舒適感和穩定性。您可以使用調整滑塊和衣夾隨意佩戴耳機。

使用衣夾

使用衣夾可將線纜固定到衣服以實現便利性和穩定性，而且可以幫助管理線纜。在高度移動的活動中或以單耳承配置使用耳機時，使用衣服夾很有幫助。



使用單個耳承

您可以只使用 Bose® SoundSport® 入耳式耳機的右 (R) 耳承。這樣您可以在通話時仍能聽到周圍聲音。

疑難排解

如果您在使用耳機時遇到任何問題，請根據下面的疑難排解說明嘗試解決。

問題	措施
沒有聲音/間斷性聲音	- 將耳機插頭牢固地連接至耳機輸入端口。 - 試試另一個音訊裝置。
低音過強	關閉音訊來源上的任何音訊增強功能。
麥克風沒有接收到聲音	- 確保您使用的是相容裝置。請參閱產品包裝箱上的相容裝置清單。 - 將耳機插頭牢固地連接至耳機輸入端口。 - 確保「接聽/結束」按鈕背面的麥克風開口未被阻擋。 - 嘗試再次通話。 - 試試另一個相容裝置。
裝置對遙控器（按鈕）的按壓操作無反應	- 將耳機插頭牢固地連接至耳機輸入端口。 - 連按功能：用不同的速度按鍵。
裝置對遙控器操作無反應	在部分 Apple 產品中可能無法使用全部控制項。
耳塞跌落	將耳塞穩固連接至耳承和出音孔彎鉤。
耳塞遺失	聯絡 Bose® 獲取備用耳塞。
耳承聲音不清	- 清除耳塞和耳機出音孔上的碎屑和耳垢。 - 從音源上拔下耳機，然後重新插入，以確保連接牢固。 - 試試另一個音訊裝置。

使用耳機

清潔

您的耳機可能需要定期清潔：

耳塞：從耳機上取下耳塞。用中性洗滌劑和清水清洗。確保在將它們安裝到耳機上之前對其進行了徹底的沖洗和乾燥處理。

耳機出音孔：只能使用乾燥、柔軟的棉質抹布或類似物品清潔。請勿將任何清潔工具插入出音孔。

有限質保

Bose® SoundSport 入耳式耳機的保修期有限。包裝箱中隨附的產品登記卡上提供了有限質保的詳細內容。有關如何登記的說明，請參見產品註冊卡。未進行註冊並不影響您的保修期權利。

本產品的質保資訊並不適用於澳大利亞和紐西蘭。有關澳大利亞和紐西蘭的保修資訊，請瀏覽 www.bose.com.au/warranty 或 www.bose.co.nz/warranty。

安全上の留意項目

このオーナーズガイドに記載された内容をよくお読みください。また、必要な時にすぐご覧になれるように、大切に保管しておくことをおすすめいたします。



警告:

- 大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特に長時間にわたるヘッドホンのご使用の際は、大きな音量はお避けください。
- ヘッドホンを使用する場合は、耳に負担をかけないように適度な音量に調節してください。
- 再生機器の音量を下げてからヘッドホンを耳に装着し、適度な音量になるまで少しずつ音量を上げてください。
- 運転中の通話にヘッドホンを使用する場合は、携帯電話とヘッドホンの使用に関する国または地域の法令を確認し、これを遵守してください。一部の国または地域の法令では、運転中の製品の使用について、片耳だけのヘッドホンの使用など、特定の制限事項が適用される場合があります。
- 車を運転している時は、ヘッドホンを使用して音楽を聴いたりしないでください。
- 自転車に乗っている時や、車道、建設現場、線路などの付近を歩いている時などにヘッドホンを使用する場合は、安全に十分注意してください。アラームや警告音などの周囲の音が聞こえるように、ヘッドホンを外すか、音量を下げてヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンを飛行機の座席端子に接続する際は、携帯電話用のアダプターは使用しないでください。使用した場合、火傷などの人身傷害や過熱による物的損害が発生する恐れがあります。
- 熱を感じた場合、または音声聞こえなくなった場合には、直ちに取り外し、接続を切断してください。
- ヘッドホンを長時間水に浸したり、水泳や水上スキー、サーフィンなどのウォータースポーツで使用したりしないでください。
- 火の付いたろうそくなどの火気を、製品の上や近くに置かないでください。



警告:

のどに詰まりやすい小さな部品が含まれています。3歳未満のお子様には適していません。



警告:

この製品には磁性材料が含まれています。埋め込み型医療機器の動作に影響があるかどうかについては、医師にご相談ください。



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.



This product conforms to all applicable EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.Bose.com/compliance

Names and Contents of Toxic or Hazardous Substances or Elements						
Toxic or Hazardous Substances and Elements						
Part Name	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Polybrominated Biphenyl (PBB)	Polybrominated diphenylether (PBDE)
PCBs	X	0	0	0	0	0
Metal parts	X	0	0	0	0	0
Plastic parts	0	0	0	0	0	0
Speakers	X	0	0	0	0	0
Cables	X	0	0	0	0	0
This table is prepared in accordance with the provisions of SJ/T 11364.						
O: Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.						
X: Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.						

©2015 Bose Corporation. 本書のいかなる部分も、書面による事前の許可のない複写、変更、配布、その他の使用は許可されません。

Bose® SoundSport® in-ear headphonesについて	4
特長	4
内容物	5
再生機器への接続	6
ヘッドホンによる機器の操作	6
ヘッドホンの操作部	6
基本機能	7
メディア再生機能	7
正しい装着の重要性	8
イヤーチップの交換	9
延長コードの接続	9
ヘッドホンの快適な装着のために	10
クリップの使い方	10
ヘッドホンの片側使用	10
故障かな？と思ったら	11
お手入れについて	12
保証	12

iPad、iPhone、およびiPod はApple, Inc.の商標であり、アメリカ合衆国および他の国々で登録されています。「iPhone」の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

「Made for iPod」、「Made for iPhone」および「Made for iPad」とは、そのアクセサリーがiPod、iPhone、あるいはiPadへの接続専用に設計され、アップル社が定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリーであることを示します。アップル社は、本製品の機能、安全、および規格への適合について、一切の責任を負いません。このアクセサリーをiPod、iPhoneあるいはiPadと使用すると、無線の性能に影響する可能性がありますのでご注意ください。

控えとして、製品のシリアル番号を下の欄にご記入ください。

シリアル番号とモデル番号は同梱の英文Warranty informationカードに記載されています。

シリアル番号 _____

モデル番号 _____

購入日 _____

このガイドとともに、ご購入時の領収証と保証書を保管することをおすすめします。

ヘッドホンの使用

Bose® SoundSport® in-ear headphonesについて


Bose® SoundSport® in-ear headphonesは、従来のスポーツ用イヤフォンでは実現できなかった、バランスの取れたフルレンジのサウンドを提供します。

特長

- 独自のTriPort®テクノロジーにより、音量を上げても低音域の自然な響きが損なわれません。
- 汗や水しぶきに強い防滴性能を実現しています。
- 独自のStayHear®チップによってぴったりと耳の形にフィットし、激しい運動を長時間行っても安定した装着感が保たれます。
- ヘッドホンを保護するため、軽量で耐久性の高いキャリングケースが付属しています。
- iPodやiPhone、iPadなどを操作できるマイク付きリモコンが装備されています。
- 耐久性に優れた設計で、高音質がいつまでも続きます。
- カラーバリエーションが選びいただけます。

内容物

箱の中身を取り出して、下図の内容物がすべて同梱されていることを確認してください。



注記: ヘッドホンには出荷時にMサイズ(グレー)のStayHear®チップが装着されています。

ヘッドホンの使用

再生機器への接続


ヘッドホンは、iPhone、iPod、またはiPadの3.5 mmヘッドホン端子に接続できます。



ヘッドホンによる機器の操作

Bose® SoundSport® in-ear headphonesにはマイク付きリモコンが装備されています。

ヘッドホンの操作部



基本機能

音量を上げる	音量＋ボタンを押してください。
音量を下げる	音量－ボタンを押してください。
通話に応答する	かかってきた電話に応答する場合は、中央ボタンを押してください。
通話を終了する	中央ボタンを押してください。
かかってきた電話を切る	中央ボタンを2秒間押し続けてから放してください。
通話中の相手を保留にしてキャッチホンに応答する	通話中に中央ボタンを1回押してください。ボタンをもう1回押すと、保留していた相手との通話が再開されます。
通話中の相手との通話を終了してキャッチホンに応答する	通話中に中央ボタンを2秒間長押ししてから、放してください。
ボイスコントロールを使用する	中央ボタンを押し続けます。 ボイスコントロールの詳細については、機器の取扱説明書をご覧ください。

メディア再生機能

音楽やビデオを再生/一時停止する	中央ボタンを押してください。
トラック送り	中央ボタンを続けて2回押してください。
早送り	中央ボタンを続けて2回押し、2回目はそのまま押し続けてください。
トラック戻し	中央ボタンを続けて3回押してください。
早戻し	中央ボタンを続けて3回押し、3回目はそのまま押し続けてください。

ヘッドホンの使用

正しい装着の重要性

ボーズ製品の優れた音質をお楽しみいただくためには、適切なサイズのStayHear®チップを選ぶことが大切です。3種類のサイズのチップから、耳に最もフィットするものをお選びください。付属のチップをすべてお試しいただくことをおすすめします。

注記: 耳にフィットしているかどうか確かめるには、声を出してみてください。チップが耳にフィットしていれば、声がこもったように聞こえます。そうでなければ、別のチップをお試しください。


チップにはL (左)、R (右)のマークが付いています。左耳用のチップをヘッドホンのL側に、右耳用のチップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。



適切なサイズのチップを選択するには:

1. ヘッドホンが落ちない程度に、ヘッドホンを軽く耳に差し込みます。
2. ヘッドホンを後頭部側に倒して、イヤータップのウィング部分を耳の溝におさめます。

チップが耳の窪みにしっかりとおさまリ、安定して装着できていることを確認してください。



イヤーチップの交換

3種類のサイズのチップから、耳に最もフィットするものをお選びください。


1. チップの縁を、ウィングの付いている側からはがすように持ち上げ、破かないように注意してヘッドホンから外します。

注意: ウィング部分を引っ張って、StayHear®チップを破損しないようにしてください。

2. ヘッドホンのノズルにチップをかぶせるように差し込み、チップの内側にある溝がノズル根元の突起部と合うように位置を合わせます。

注記: チップには、左右どちらのヘッドホンに取り付けるかを示すL、Rのマークが付いています。左耳用のStayHear®チップをヘッドホンのL側に、右耳用のStayHear®チップをR側にそれぞれ正しく取り付けてください。

3. チップを押して、溝をノズルの突起部にはめ込みます。チップがぴたりとはまり、正しく固定されていることを確認します。



延長コードの接続

ヘッドホンと再生機器の間のケーブルを長くするには、延長コードをお使いください。

1. 延長コードのメス型コネクタにヘッドホンのケーブルを接続します。
2. 延長コードの反対側を再生機器の3.5 mmヘッドホン端子に差し込みます。


ヘッドホンの使用

ヘッドホンの快適な装着のために

クリップを使って、ご自分の使い方にあった装着方法が選べます。ヘッドホンの装着方法に合わせて、装着クリップを使用します。

クリップの使い方

クリップでケーブルを衣服などに固定することで、ケーブルが絡みついたりすることを抑えます。エクササイズなどの激しい運動を行う時や右側のヘッドホンだけを使用する場合のケーブルの固定に役立ちます。



ヘッドホンの片側使用

Bose® SoundSport® in-ear headphonesは、右(R)のヘッドホンのみを耳に装着して使用できます。周囲の音を聞きながら電話で話をすることができます。

故障かな？と思ったら

ヘッドホンの使用に問題が生じた場合、次の指示を参照してください。

トラブル	対処方法
音が聞こえない/途切れる	• ヘッドホンプラグをヘッドホン端子にしっかり接続します。 • 別の音楽再生機器をお試しください。
低音が大きすぎる	• 音楽再生機器の音質調整機能をオフにします。
マイクが音を正常に拾わない	• 対応している機器を使用していることを確認します。パッケージに記載されている対応製品リストをご覧ください。 • ヘッドホンプラグをヘッドホン端子にしっかり接続します。 • 中央ボタンの裏側にあるマイク開口部がふさがれていないことを確認します。 • もう一度電話をおかけ直してください。 • 対応している別の機器でご確認ください。
機器がボタン操作に反応しない	• ヘッドホンプラグをヘッドホン端子にしっかり接続します。 • 2回以上続けて押す操作の場合は、押す速度を変えてみてください。
機器がリモコン操作に反応しない	• 一部のアップル社製品では、操作機能が限定される場合があります。
StayHear®チップが落ちる	• ヘッドホンのノズル根元にある突起部にチップをしっかりと取り付けます。
StayHear®チップをなくした	• イヤーチップの入手方法はBose®カスタマーサービスまでお問い合わせください。
ヘッドホンからの音がはっきり聞こえない	• チップやヘッドホンのノズルの先端にごみなどが詰まっていれば取り除きます。 • 音楽再生機器からヘッドホンを外し、しっかりと接続しなおしてください。 • 別の音楽再生機器をお試しください。

ヘッドホンの使用

お手入れについて

定期的にお手入れすることをおすすめします。

StayHear®チップ: イヤーチップをヘッドホンから取り外し、水に中性洗剤を溶かした溶液で洗います。ヘッドホンに取り付ける際には、十分に乾燥していることを確認してから取り付けてください。

ヘッドホンのノズル: 柔らかい布か綿棒などを使ってそっと汚れを拭き取ってください。ノズルの開口部に清掃道具を差し込まないでください。

保証

製品保証の詳細は (<http://bose.co.jp/rep>) をご確認ください。製品のご登録をお願いいたします。登録は、<http://global.Bose.com/register> から簡単に行えます。製品を登録されない場合でも、保証の内容に変更はありません。

本製品の保証内容は、オーストラリアおよびニュージーランドでは適用されません。オーストラリアおよびニュージーランドでの保証の詳細については、弊社Webサイト (www.bose.com.au/warranty または www.bose.co.nz/warranty) をご覧ください。

قد تتطلب سماعات الرأس تنظيفاً دورياً:

سدادات الأذن: قم بإزالة سدادات الأذن من سماعات الرأس. واغسلها بمنظف معتدل وماء. وتأكد من غسلها جيداً وتجفيفها قبل إعادة وضعها على سماعات الرأس.

فوهات سماعات الرأس: لا تقم بتنظيفها سوى بقطعة قماش ناعمة جافة أو ما يعادلها. ولا تقم مطلقاً بإدخال أية أداة تنظيف في الفوهة.

الضمان المحدود

يتم تغطية سماعات الرأس Bose® SoundSport in-ear بضمان محدود. يتم وضع بيانات الضمان المحدود على بطاقة تسجيل المنتج الموجودة في العلبة الكرتونية. يرجى الرجوع للبطاقة للاطلاع على التعليمات الخاصة بكيفية التسجيل. ولن يؤثر عدم القيام بالتسجيل على الحقوق المكفولة لك بموجب الضمان المحدود.

لا تنطبق معلومات الضمان المقدمة مع هذا المنتج في أستراليا ونيوزيلندا. راجع موقع الويب الخاص بنا على www.bose.com.au/warranty أو www.bose.co.nz/warranty للحصول على تفاصيل عن الضمان في أستراليا ونيوزيلندا.


حاول اتباع التعليمات التالية الخاصة بحل المشاكل إذا صادفتك مشاكل في استخدام سماعات الرأس.

المشكلة	الحل
لا يوجد صوت/أو صوت متقطع	• قم بإحكام توصيل قابس سماعات الرأس في مدخل السماعة. • جرب جهاز صوت آخر.
صوت باص زائد عن الحد	• قم بإيقاف تشغيل جميع خصائص تحسين الصوت في مصدر الصوت.
الميكروفون لا يلتقط الصوت	• تأكد من أنك تستخدم جهازاً متوافقاً. راجع قائمة الأجهزة المتوافقة على العلبة الكرتونية للمنتج. • قم بإحكام توصيل قابس سماعات الرأس في مدخل السماعة. • تأكد من عدم انسداد فتحة الميكروفون خلف زر الرد/الإنهاء. • جرب مكالمات هاتفية أخرى. • جرب جهازاً متوافقاً آخر.
لا يستجيب الجهاز للضغط على أزرار جهاز الريموت	• قم بإحكام توصيل قابس سماعات الرأس في مدخل السماعة. • لوظائف الضغط المتعدد: تختلف حسب سرعة الضغط.
الجهاز لا يستجيب لجهاز الريموت	• قد لا تتوفر أدوات التحكم الكاملة لبعض منتجات Apple.
سقوط سدادات الأذن	• قم بتهيئة سدادات الأذن جيداً بقطعة الأذن ومشبك الفوهة.
سدادة أذن مفقودة	• اتصل بشركة Bose® بخصوص سدادات الاستبدال.
صوت قطعة الأذن مكتوم	• قم بإزالة أي مخلفات أو تراكم للشمع من سدادات الأذن وفوهات سماعات الرأس. • قم بفصل سماعات الرأس من مصدر الصوت ثم إعادة توصيلها للتأكد من أنها موصلة جيداً. • جرب جهاز صوت آخر.

توجد عدة طرق لضبط سماعات الرأس لتوفير المزيد من الراحة والثبات. ويمكنك تخصيص طريقة ارتداء سماعات الرأس باستخدام منزلق الضبط ومشبك الملابس.

استخدام مشبك الملابس

استخدم مشبك الملابس لربط الكابل بملايسك للراحة والثبات وليساعدك على التحكم في الكبل. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً أثناء الأنشطة المليئة بالحركة أو عند استخدام سماعات الرأس في تهيئة قطعة أذن واحدة.



استخدام قطعة أذن واحدة

يمكن استخدام سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundSport® بقطعة الأذن اليمنى (R) فقط في أذنك. وهذا يسمح لك باستقبال المكالمات وسماع الأصوات المحيطة.

تغيير سدادات الأذن

اختر نوع وحجم سدادة الأذن الذي يوفر أفضل راحة وتوافق.


1. قم بتقشير حواف السدادة الملحقة برفق بعيداً عن قطعة الأذن مع توخي الحذر لعدم تمزيق السدادة.

تنبيه: لتجنب التلف، لا تجذب جناح سدادة StayHear®.

2. قم بضبط وضع السدادة الجديدة على الفوهة وعلى الفتحة الصغيرة على مشبك الفوهة.

ملاحظة: توجد علامة على كل طرف إما L أو R لتوضيح الوضع المناسب لكل قطعة. تأكد من تثبيت سدادة StayHear® اليسرى بقطعة الأذن اليسرى وسدادة StayHear® اليمنى بقطعة الأذن اليمنى.

3. قم بوضع قاعدة السدادة على قاعدة قطعة الأذن بشكل سهل إلى أن تشعر أن السدادة ثابتة.



توصيل كبل التمديد

قم بتوصيل كبل التمديد لعمل طول إضافي للكبل بين سماعات الرأس والجهاز المحمول الخاص بك.

1. قم بتوصيل الطرف الأنثوي من كبل التمديد إلى كبل سماعة الرأس.


2. قم بتوصيل الطرف الآخر من كبل التمديد في مدخل سماعة الأذن 3.5 ملم بجهازك.

أهمية التركيب الصحيح

لأفضل أداء صوتي، من المهم اختيار الحجم الصحيح لسدادة StayHear®. حدد الحجم الذي يوفر لك أفضل راحة ويتم تركيبه في كل أذن. وقد تحتاج لتجربة جميع الثلاثة أحجام لتحديد أفضلها.


ملاحظة: لاختبار التوافق، جرب التحدث بصوت عالٍ. ينبغي أن يكون صوتك مكتومًا في الأذنين. وإذا لم يكن كذلك، اختر حجم سدادة آخر.

يتم التعليم على كل سدادة إما بحرف L (يسار) أو حرف R (يمين). تأكد من تثبيت السدادة اليسرى (L) بقطعة الأذن اليسرى والسدادة اليمنى (R) بقطعة الأذن اليمنى.



لتحديد إذا ما كان حجم السدادة صحيح:

1. أدخل سماعة الرأس في الأذن بحيث تستقر السدادة برفق في فتحة قناة الأذن.
2. قم بإمالة سماعة الرأس للخلف واضغط جناح السدادة تحت أعلى الأذن إلى أن تصبح ثابتة. تستقر السدادات بشكل مريح ولكن ثابت في تجويف الأذن.



زيادة مستوى الصوت	اضغط زر + ثم اتركه.
خفض مستوى الصوت	اضغط زر - ثم اتركه.
الرد على مكالمة	عندما تتلقى مكالمة واردة، اضغط على زر الرد/الإنهاء ثم اتركه للرد على المكالمة.
إنهاء مكالمة	اضغط زر الرد/الإنهاء ثم اتركه.
رفض مكالمة واردة	اضغط مع الاستمرار على زر الرد/الإنهاء لمدة نحو ثانيتين ثم اتركه.
تحول إلى مكالمة واردة أو في وضع الانتظار وضع المكالمة الحالية قيد الانتظار	أثناء إجراء مكالمة، اضغط زر الرد/الإنهاء مرة واحدة ثم اتركه. واضغط الزر مرة أخرى ثم اتركه للعودة إلى المكالمة الأولى.
التحول إلى مكالمة واردة أو في وضع الانتظار وإنهاء المكالمة الحالية	أثناء إجراء مكالمة، اضغط مع الاستمرار على زر الرد/الإنهاء لمدة نحو ثانيتين ثم اتركه.
استخدام التحكم في الصوت	اضغط مع الاستمرار على زر الرد/الإنهاء. لمزيد من المعلومات حول التحكم الصوتي، راجع دليل المستخدم الخاص بجهازك.

وظائف تشغيل الوسائط

تشغيل أو إيقاف أغنية أو فيديو مؤقتاً	اضغط زر الرد/الإنهاء ثم اتركه.
الانتقال للأمام	اضغط زر الرد/الإنهاء مرتين بسرعة.
التقديم السريع	اضغط زر الرد/الإنهاء مرتين بسرعة ثم اتركه واستمر في الضغط الثانية.
الانتقال للخلف	اضغط زر الرد/الإنهاء ثلاث مرات بسرعة ثم اتركه.
الترجيع	اضغط زر الرد/الإنهاء ثلاث مرات بسرعة ثم اتركه واستمر في الضغط الثالثة.

التوصيل بجهازك


قم بتوصيل سماعة الرأس بمدخل سماعات الرأس القياسي 3.5 ملم في جهازك iPod أو iPhone أو iPad.



استخدام سماعات الرأس مع جهازك


تأتي سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundSport® in-ear ومعها ميكروفون في الخط وجهاز ريموت 3 أزرار.

أدوات التحكم في سماعات الرأس



محتويات العلبة الكرتونية

قم بتفريغ العلبة الكرتونية بعناية وتأكد من وجود الأجزاء التالية:



ملاحظة: سماعات الرأس مرفق معها سدادات StayHear® متوسطة (رمادية).

Bose® SoundSport® داخل الرأس الأذن

سماعات السماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundSport® in-ear توفر صوتاً كاملاً ومتوازناً لا يمكن مضاهاته بسماعات الأذن الرياضية التقليدية.

المزايا

- توفر تكنولوجيا TriPort® الحصرية مستويات صوت منخفضة طبيعية حتى في الأصوات الأعلى.
- مقاومة لتقلبات الطقس والعرق.
- سدادات StayHear® المسجلة ببراءة اختراع تطابق شكل أذنك، لذلك فإنها تبقى في مكانها بشكل مريح على مدى فترة طويلة من التدريب الشاق.
- تقوم حقيبة الحمل الخفيفة والمتينة بحفظ وحماية سماعات الرأس.
- يتحكم ميكروفون في الخط وجهاز ريموت في أجهزة iPod و iPhone و iPad محددة.
- تم تصميمها واختبارها للجودة الدائمة والمتانة.
- متوفرة بألوان مختلفة لتناسب أسلوبك.

المحتويات

4	حول سماعات الرأس داخل الأذن Bose® SoundSport®
5	محتويات العلبة الكرتونية
6	التوصيل بجهازك
6	استخدام سماعات الرأس مع جهازك
6	أدوات التحكم في سماعات الرأس
7	الوظائف الأساسية
7	وظائف تشغيل الوسائط
8	أهمية التركيب الصحيح
9	تغيير سدادات الأذن
9	توصيل كبل التمديد
10	الضبط للراحة والثبات
10	استخدام مشبك الملابس
10	استخدام قطعة أذن واحدة
11	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
12	التنظيف
12	الضمان المحدود

iPad و iPhone و iPod هي علامات تجارية لشركة Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى. يتم استخدام العلامة التجارية "iPhone" بترخيص من شركة Aiphone K.K.

"صنع من أجل iPod" (Made for iPod) و "صنع من أجل iPad" (Made for iPad) تعني أن ملحقا إلكترونيا قد تم تصميمه للتوصيل خصيصاً بجهاز iPod أو iPhone أو iPad على التوالي وتم التصديق عليه من قبل المطور ليفي بمعايير أداء Apple. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو عن خضوعه لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

يرجى استكمال سجلاتك والاحتفاظ بها:

يمكن العثور على الرقم المسلسل والموديل على بطاقة الضمان.

الرقم المسلسل

رقم الموديل

تاريخ الشراء

نحن نقترح عليك الاحتفاظ بإيصال المبيعات مع دليل المالك هذا.

معلومات السلامة الهامة

يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تحذيرات:



- لا تستخدم سماعات الرأس في مستوى صوت مرتفع لأي مدة زائدة عن اللازم.
- لتجنب تلف السمع، استخدم سماعات الرأس في مستوى صوت مريح ومعقول.
- قم بخفض مستوى الصوت في جهازك قبل وضع سماعات الرأس على أذنك ثم ارفع مستوى الصوت تدريجياً إلى أن تصل إلى مستوى استماع مريح.
- **توخي الحذر** واتبع القوانين المعمول بها فيما يتعلق بالهاتف المحمول واستخدام سماعة الرأس، في حالة استخدام سماعات الرأس للمكالمات الهاتف أثناء القيادة. وتفرض بعض السلطات القضائية قيوداً معينة مثل تهيئة قطعة أذن واحدة عند استخدام مثل هذه المنتجات أثناء القيادة.
- لا تستخدم سماعات الرأس لأي غرض آخر أثناء القيادة.
- ركز على سلامتك وسلامة الآخرين إذا كنت تستخدم سماعات الرأس أثناء القيام بأي نشاط يتطلب انتباهك مثل ركوب دراجة أو المشي بالقرب من حركة مرور أو موقع بناء أو سكة حديدية وما إلى ذلك. قم بإزالة سماعات الرأس أو اضبط مستوى الصوت لضمان أنه يمكنك سماع الأصوات المحيطة بما في ذلك التنبيهات وإشارات التحذير.
- لا تستخدم محولات الهواتف النقال لتوصيل سماعات الرأس بمقابس مقعد الطائرة فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شخصية كالحرق أو تلف في الممتلكات بسبب السخونة الزائدة.
- قم بإزالة سماعات الرأس وافصلها على الفور إذا كنت تعاني من إحساس بالحرارة أو فقدان الصوت.
- لا تقم بغمرها أو تعريضها للماء لفترة طويلة أو ارتداؤها أثناء الاشتراك في رياضة مائية مثل السباحة والتزلج على الماء وركوب الأمواج، الخ.
- لا تضع أية مصادر للهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، فوق المنتج أو بالقرب منه.

تحذير:



يحتوي على أجزاء صغيرة قد تتسبب في الاختناق. غير مناسب للأطفال الأقل من 3 سنوات.

تحذير:



يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. يرجى الاتصال بطبيبك إذا كان لديك أي أسئلة حول ما إذا كان هذا قد يؤثر على تشغيل جهازك الطبي القابل للزرع.

هذا الرمز يعني أنه يجب عدم تجاهل المنتج كنفائات المنزلية ويجب تسليمه إلى مرفق جمع مناسب لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم وإعادة التدوير على حماية الموارد الطبيعية وصحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، اتصل بالبلدية المحلية أو خدمة التخلص أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

يتوافق هذا المنتج مع جميع متطلبات توجيه الاتحاد الأوروبي EU المعمول به. ويمكن العثور على البيان الكامل للتطبيق في موقع: www.Bose.com/compliance

أسماء ومحتويات المواد أو العناصر السامة أو الخطرة						
المواد أو العناصر السامة أو الخطرة						
اسم الجزء	الرصاص (Pb)	الزئبق (Hg)	الكاديوم (Cd)	سداسي الكبريت (CR(VI))	ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBB)	أثير ثنائي الفينيل المعالج بالبروم (PBDE)
لوحات النواير المطبوعة (PCBs)	X	O	O	O	O	O
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
السماعات	X	O	O	O	O	O
الكابلات	X	O	O	O	O	O
يتم إعداد هذا الجدول وفقاً لأحكام معيار SJ/T 11364.						
O: تشير إلى أن المادة السامة أو الخطرة الموجودة في كل المواد المتجانسة لهذا الجزء أقل من متطلبات التقييد في معيار GB/T 26572.						
X: تشير إلى أن المادة السامة أو الخطرة الموجودة في أحد المواد المتجانسة على الأقل المستخدمة لهذا الجزء أكبر من متطلبات التقييد في معيار GB/T 26572.						





728308-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2015 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM728308 Rev. 01